

القرآن الكريم

وَرَبِّحْهُ مَعَانِيَهُ إِلَى  
اللُّغَةِ الْكَثِيرَةِ

## سُورَةُ الْفُرْقَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ①  
 الَّذِي لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَكَلَّمَ بَنِي  
 آدَمَ فِي الْمَلَكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ②  
 وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ  
 وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا  
 یہ قرآن مجید نُس پڑس ہے آپڑس منز فرق کرہ دن بخو پنے نس بندہ خاص پیٹھے یعنی حضرت تم محمد س  
 پیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بٹھے سو بندہ خاص سپدہ، عالمین، جنن ہے انسان ہمد خیطرہ، کھوڑہ ناوہ دن خدا یہ  
 سدہ عذابہ لٹیر۔ یہہ نیم کرہ دن تمن تم نہ ایمان آن ہے پڑھ کرن کٹس خدا نس    الَّذِي لَهُ مَلِكُ  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ نُس ذات پاکہ سز پادشہت ہے سلطنت بخد آسمانن ہے زمین اندر    وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا  
 وَكَلَّمَ بَنِي آدَمَ فِي الْمَلَكِ یہہ بخونہ تم قرار ذہمت کانسہ اکھاہ بن اولاد یہہ بخونہ نس کانسہ اکھاہ  
 شریک حکو نس ہے سلطنتس منز    وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا یہہ تم پریت چیزاہ پیدہ کور۔ تو پتہ  
 کوزن پریت چیزک الگ الگ اندازہ۔ اکہ چیزک خاصیت کوزن اکہ یہہ چیزک بیاکھ    وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ  
 آلِهَةً بٹھے صاحب کمال خدا آبتھ ترود مشر کو تسد توحید۔ تو پتہ بناو کہ نس ورا ی ہے چیز بنن معبود  
 تم نہ علمہ صنور نس اندر معبود آس نس قابل جھبہ    لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ  
 لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا تم نہ کانسہ چیز پیدہ بٹکن بکرت کیا زہ تم جھبہ پانہ پیدہ کرنہ آست۔ یہہ بخونہ

وَلَا حَيَوةَ وَلَا نَشُورًا ﴿۴﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا  
 إِفْكٌ لِفِتْرَةِهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا  
 ظُلْمًا وَزُورًا ﴿۵﴾ وَقَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ  
 تُمَلَّى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿۶﴾ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ  
 فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۷﴾ وَقَالُوا

تمن اختیار پنہ نین پانن ہندہ خیطرہ عنہ فخر کہہ نہ نقصانہ دور کر تک نہ کانہ نفعانہ نہ فائدہ حاصل  
 کر تک وَلَا یَسْلُکُونَ مَوْتًا وَلَا حَیوَةً وَلَا نَشُورًا یہ ہنھونہ تمن اختیار کانہ ہندہ مار تک یعنی کانہ  
 جاندارس کیا ہیجہ ہن زوکڈت، نہ کانہ ہندہ زندہ تھاو تک یعنی کانہ بیجانس کیا ہیجہ ہن جاندار بناوت  
 نہ قیامتک دوہ نہ مرنہ پتہ یہ زندہ کر تک۔ لمہ سارہ کوی اختیار ہنھو اللہ تعالیٰ اس معبود آسک لو ازام  
 ہجہ تے چیز۔ نس منز ہم چیز چہ، سوی شوہ معبود، نس منز نہ ہم چیز چہ شوہ ہنھونہ ہرگز معبود آسک  
 قابلِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ لِفِتْرَةِهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ یہ دون کافر وہ  
 مشرکو قرآن مجیدس متعلق ہجہ یہ ہنھو بالکل لہذ۔ نس تم، یعنی ام پیغمبرن پانے فخر و دست ہنھو۔ یہ لو کو  
 آس پیغمبرس یہ لہذ فخر و نس اندر مدد کورنت۔ یعنی تمواہل کتابہ ہم مسلمان سپد مس آس، یا تم اہل  
 کتاب یم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمن لہذ یوان گوجان آس فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا نس تھن  
 یژہ تھہ دنہ سیت کور سمو کافر وہ بوڈ ظلم یہہ دو لکھہ سینشاہ بوڈ لہذ وَقَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اِکْتَتَبَهَا  
 اتھہ سیت ہجہ یم کافر یہ تھہ نہ دنان کہہ یہ قرآن مجید ہنھو بے سند تھہ سمہ ہر دو تھن لو کن لہذ نقل ہنھہ  
 یوان کرنہ۔ یہہ لیکھنا و مشر وہ تھہ امی پیغمبرن عمدہ عبارتس اندر اتھہ دارہ سوچتھہ کتھہ صحابہ صائن ہندہ  
 اتھہ فہی تُمَلَّى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا نس ہجہ تے تھہ لیکھنا ونہ یوان تمن لہذ کس نہ شامس قُلْ أَنْزَلَهُ  
 الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تمہ فرماو یو کہہ یار سول اللہ سمہ یہ قرآن مجید کور نازل تم  
 پروردگارن نس زمان ہجو ساری پو شیدہ تھہ۔ اوہ تمہ تھہ آسمانن منز آستن یازمین منز آستن۔ تمی

مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ  
لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۚ أَوْ يُلْقَى  
إِلَيْهِ كَذِبًا وَتَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ  
إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۚ أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ  
الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۚ تَبَارَكَ الَّذِي  
إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِمَّنْ ذَلِكَ جَدَّتْ تَجْرِي

سبب یہ نحو یہ قرآن مجید فصاحت و بلا نفس منز ممتاز۔ اتمہ بے کلام پیش کرئس اندر ہجہ جن سے انسان عاجز۔ اتمہ کلام نسبت تہز وہ سمہ بچہ تہہ ونہ موکہ شوبہ ہاتھوہہ سخت سزاوین مگر اِنَّهُ كَانَ مَعْتُورًا رَجِيمًا بیشک سوہ نحو سہ شاہر حم کردان سہ شاہ مغفرت کردان۔ سوہ نحو نہ جُرْمَن سیتی سزاوڈان۔ مگر یہ رحم و مغفرت ہنحو نہ خاص و نفس تان۔ سو وقت تہہ ہن لہہ قسمچہ تہہ کرن وال غذاہس گرفتار کرنہ وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ یہ ہجہ ہم کافر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق یہ وہان ہمہ ہمیں پیغمبرس کیاہ سپہ، یہ ہنحو سانی پانہہ غذاہہ کیوان یہ ہنحو معاہک انتظام کرن فیطرہ بازرو منز پھیران لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ہمیں سیت کونہ آوسوزنہ کانہ مکاہ۔ سوہہ آبہ ہا ہمیں سیت روزت لوکن خداہ سپہہ غذاہہ نشہہ کھوڑہ ہادان سے ہم کران اَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَذِبًا نہ کوبہ آوترونہ تمن کانہ خزاناہہ ہمہہ پیئچہ ہم خرچ آسمن کران۔ فخر معاہج روزہ ہانہ ضرور تہس اَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا نہ کونہ ہنحو تمن سیت کانہ میوہ باغاہ تہی منزہ آسمن ہم کیوان وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا یہ ہجہ وہان ہم ظالم کافر با ایمان، جبہ ہجہ وہ نہ پتہ پتہ پکان مگر تہہ سی اہس شخصس نس پیئچہ ہجہ سے جوہ کرنہ آنت ہنحو ہمہ سیت تہز عقل بحال ہجہ روز مثر اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ و ہجہ تہہ پانہہ ہم کافر توہہ پیئچہ عجیب عجیب ہنالہ بیان کران فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا تمن ہجہ پانس و تہہ رومر نس ہجہہ بیان ہم



مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ۝۱۰ بَلْ كَذَّبُوا  
 بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۝۱۱  
 إِذَا رَأَوْهُم مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ۝۱۲  
 وَإِذَا أَلْقَاوْهُمَا مَكَانًا خِيفًا مُّقْرِنِينَ دَعَا هُنَا لِكَ  
 نُبُورًا ۝۱۳ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ نُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا شُبُورًا  
 كَثِيرًا ۝۱۴ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ مَّرْجَةٍ الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَ

و تمہ لہ تھے۔ تبارک الذیٰ اِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ جَدِّتَ تَجْرِي مِّنْ تَحْتِهَا  
 الْاَنْهَارُ عام ہفتہ برکت انس پروردگارہ سز سیشماہ تمودہ نحو جہد شان۔ انس ہر گاہ سوز شہر ہالہ بانج کیاہ  
 ہفتہ کھلی بی شمار سہ خونہ رت رت باغ گروہ ہاتوہ عطا سمو منز جوہہ پکان آسمن وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا  
 یہ کرہ ہا سوز خمدہ خیطرہ تمن باغن منز کم کہہ جاپہ ۳ مکان تیار مگر بعض حکمن من نظر کرت بو ڈھ نہ تہ  
 اللہ تعالیٰ ان۔ کج آسنہ ضرورت تہ۔ کیا زہ اس ہجندہ مجبور سمہ تھہ ہند کہ کج فرمائش کافر کرن ۳ کیا  
 گزوا اس پورہ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ اصل تھہ ہفتہ یہ سمہ کافر ہفتہ قیاس لہذا زمانہ۔ تمی ہفتہ تم  
 بے فکری سبہ اسہ کج تھہ کران۔ یہ نو تھہ یوان ہفتہ کہہ تہ ہفتہ دوران وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ  
 سَعِيرًا اسہ ۳ ہفتہ تیار تمودت قیامت کین مخرن ہندہ خیطرہ ذرہ وان نار۔ کیا زہ قیاس انکار کرنہ  
 سیت ہفتہ لازم یوان خد انس ۳ تہ غیر خد انس انکار کرن۔ سو ہفتہ اصلی سبب جہنم اندرو اتک إذا  
 رَأَوْهُم مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا بلہ سوز نار و ہفتہ تمن مخرن ذوری بو زن تم تمک  
 شرمہ ہوت گردان یہ تہہ نامکہ وَإِذَا أَلْقَاوْهُمَا مَكَانًا خِيفًا مُّقْرِنِينَ توپت بلہ ترونہ بن تم تمہ  
 منزہ لہہ تک جاپہ منز اکھ اکس سیت گند بھر تمہ یا تھہ کھور گردہ سیت گندت دَعَا هُنَا لِكَ نُبُورًا  
 ڈھانڈن پنہ خیطرہ ہلاکت ۳ موت پانس کرن لیلہ ۳ انوس لَان تَدْعُوا الْيَوْمَ نُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا  
 شُبُورًا كَثِيرًا ونہ کجھ ای کافر واکي بھر منہ ڈھانڈ وجہہ از پنہ خیطرہ موت بلکہ ڈھانڈ دورانہ بھرہ

الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءٌ وَمَصِيرًا ﴿۱۵﴾ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ  
 خَالِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدٌ مَسْئُولًا ﴿۱۶﴾ وَيَوْمَ يَجْثُرُهُمْ  
 وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضَلُّتُمْ  
 عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿۱۷﴾ قَالُوا سُبْحٰنَكَ  
 مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَ  
 لَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا

قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَهَنَّمُ الْخَالِدَاتِ وَعِدَ الْمُتَّقُونَ جہنہ فرما دیو کہ یا رسول اللہ ای کافر وہ یہ  
 انسوناک حالت چہار ٹکینہ سو ہمیشہ روزگ جنت بخو بہتر سمیک وعدہ آد کر نہ، پر ہیز گارن،  
 خدائس کھوڑو نمین۔ کانت لہم جزاء و مصیرا سو جنت آسہ جہنہہ خیلرہ در ژان عملن ہنزمزور۔ یہ  
 آسہ تمن چولا کہ اتھ جنٹس منزواتن لہم فیہا ما یشاءون خلیلین جہنہہ خیلرہ آسہ تھہ جنٹس منزویہ  
 سوزوی یہ تم یڑھمن، ہمیشہ روزہ ون آسن تھہ جنٹس منز کان علی ربک وعدا مسئولا تمن پر ہیز  
 گارن ہندا تھہ جنٹس منزواتن بخو کہ وعدا ئس بطور فضل و عنایت مہ بخو جہدس پروردگار س پیٹھہ۔  
 یہ بخو یہ وعدا قابل در خواست و یوم یجثرہم و ما یعبدون من دون اللہ یہ پاود تمن ژتیس  
 سمہ دوہنہ اللہ تعالیٰ تمن سارنی کافرن یہ جہدین معبودان باطلن تمن ہنر پر سنش تم معبود بر حٹس  
 و رای کران آس جمع کرہ پائس برو تھہ سنہ فیقول ءانتما اضللتم عبادی ہولاء امھم  
 ضلوا السبیل تو پتہ پر ژھہ تمن معبودان باطلن کیاہ تو ہی ڈالو کہ سم میان ہندہ سیرہ و تہہ نھہ۔ کہنہ سم  
 ڈل پائے راہ راستہ نھہ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء تم  
 و تمن پروردگار اڑہ بخو کہ منزوہ یہ پاک۔ سون کیاہ طاقت اوس آس کیاہ کرہ ہون ژہ و رای یہ کا نہ کار  
 سازاہ مقرر۔ آدہ تم آس آسہ ہو یا یہ کا نہ یلہ آس یقین ہجہ زانان کہ معبود بخو کہ ژی یوت یہ نہ  
 کا نہ۔ آس تھہ پاٹ بیجہ ہو لو کن شرنگ امر کرت یا تھہ پیٹھہ رضامندی ظاہر کرت و لکن متعتہم

بُورًا ﴿۱۸﴾ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا  
 وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمِ مِّنْكُمْ نُدِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿۱۹﴾  
 وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ  
 الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ  
 لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿۲۰﴾

وَابَاءَهُمْ حَتَّىٰ تَسْأَلَ الذِّكْرَ لیکن ہم سہ پاپے ٹمرا۔ سموکور شکران نعمت ہذل مکران نعمت۔  
 حقیقت، بھہ نیچے کہ ڈرہ ٹکناو ٹھکھ تم یہ جہد مال ہڈب مال دنیا ک تمتع یو تنان تم فسرہ جن خواہش نہ  
 لذتن اندر بوڈت گئے۔ توت کہ چون یادی مٹروا کہ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ہم سہ پاپے برباد تہ ہلاک  
 فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ ای کافر و پز پاپٹ سمن معبودان باطلن ہنز جہہ پر جتس کران آسودہ، تمو  
 ڈرہ قرار جہزہ سارے تھہ ایزہ۔ تمو تہ کورنہ توبہ کا نہ مدد۔ توبہ پیٹھہ چھو کھسان یو رہ پاپٹ جرم قما  
 تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا نئس بیكونہ جہہ پائس بعبہ عذاب ڈور کمر تھہ نہ بیجوہ توبہ کا نہ شخصہ مدد  
 کمر تھہ وَمَنْ يَظْلِمِ مِّنْكُمْ نُدِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا بیہ نئس توبہ اندر نافرمان یعنی مشرک آسہ  
 سُوڑہہ نادون اُس بوڈ عذاب وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَ  
 يَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ بیہ ہم پیغمبر آسہ سُوڑ توبہ برو تھہ یار سول اللہ تم ساری آس غذا بیہ کھیوان بیہ  
 آس باز رومنز معاش تلاش کرنہ خیطرہ پکان تہ پھیران۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ای  
 پیغمبر کریم، ای پیغمبر کریمہ سند یو تاہو تھہ جہہ کافرن ہنز و کتھو سیت تمکین آسوسہ ان۔ کیا زہ آسہ  
 وجوہ جہہ ساری کمر مت آکھ آکھہ خیطرہ آزمائش۔ حضرات انبیاء کمر آسہ لوکن ہندہ خیطرہ آزمائش  
 کہ کم لوکھ کرن جہد س بشر آسٹس من نظر کرت تم انکار تہ کم لوکھ کرن جہدین نبوت کین کمالاتن  
 من نظر کرت تم ہلاک تہ تصدیق اَتَصْبِرُونَ جہہ تہ کمر و صبر یعنی جہد گوہہ ضرور صبر کرن وَكَانَ  
 رَبُّكَ بَصِيرًا یہ تھہ بھہ یعنی کہ جہد پروردگار بھو ساری ہند حال لاچھان۔ مقررہ و کس پیٹھہ بیہ سُو

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أُولَٰئِكَ نَزَّلْنَا  
 الْمَلَائِكَةَ أَتَوْنِي رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا  
 عُتُوًّا كَبِيرًا ۝۲۱ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ  
 وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ۝۲۲ وَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِن عَمَلٍ  
 فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ۝۲۳ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا  
 وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۝۲۴ وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ غِيَامًا وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ

تم ضرور سزا۔ لہذا کیا وہ چھوہ ہے۔ تم کیوں۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أُولَٰئِكَ نَزَّلْنَا الْمَلَائِكَةَ أَتَوْنِي رَبَّنَا یہ جہہ وہاں تم لو کہ تم نہ کانہ اندیشہ ہو اور یہ کہ پیش سپد تک، تھے مگر آسنہ سو کہہ کہ اسے پیٹھ کو نہ جہہ ملا تک سوز نہ یوان چہرہ تصدیقہ خطیرہ یا کو نہ چمن اس سے چمن پروردگار و چمن، سنی کرہ ہا نہ جہہ اس پیغمبر آسنہ تا سید تصدیق لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا تم لو کہ جہہ چہا پتہ چاہے چمن پان سینہا ہنڈ بوز نہ یوان۔ خصوصاً کوڑ کہ خدا تمس و جہک، تمس سیت کلامہ کر تک تجویز پیش۔ امہ سیت درای تم لو کہ انسانی محمد حد و نشہ سینہا نہہر۔ یہ ستر سمو ہنڈ سر کشی یَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وون تمہہ دوہہ تم و چمن ملا کن تمہیب صورتن اندر مر بھہ وقتہ یا قیام تک دوہہ تمہہ دوہہ آسنہ کانہ خوشی ہنر کتہا نصیب تم تا فرمانن، ملا کن بلہ و چمن غذا یک سامانہ ہتہ، سینہا گابرن تمہہ سادہ وَ يَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا تھے حالتس منز و نن تمہہ سادہ پناہ خدا، پناہ خدا، اسہ گوڑہ مضبوط ٹھورہ تمن لہہ حاصل سپدن (تمہہ ملا کن تمکن و جہتہ ٹے ہنہ سنا خدا تمس و جہتہ) وَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِن عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا یہ سپد و اس متوجہ تم کافرن ہنزان رٹن کائین کن تمہہ تمو دنیا اس منز کر مڑہ آسن۔ تمس کر وہ تمہہ عملہ جہتہ آسز گرد ہہہ۔ کانہ ثوابہ آسنہ تم ہنڈ۔ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا جنتی یمن ہم کافر ٹھنہ آس کر ان، آسن تمہہ دوہہ سینہا ہرت قیام گاہ کن، آرام گاہ کن

تَنْزِيلًا ۱۵) الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْخَبِيرُ لِلرَّحْمَنِ ۱۶) وَكَانَ يَوْمًا عَلَى  
 الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ۱۷) وَيَوْمَ يَعْصُ الظّٰلِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ  
 يٰلَيْتَنِيْ اَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ۱۸) يٰوَيْلَتِيْ لَيْتَنِيْ لَمْ  
 اَتَّخِذْ فُلًا نَّٰخِلِيْلاً ۱۹) لَقَدْ اَضَلَّنِيْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِيْ ۲۰)  
 وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسٰنِ خَدُوْلًا ۲۱) وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ  
 اِنِّىْ قَوْمِيْ اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ۲۲) وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ

یعنی جنت آسہ جہنمہ قیام کرئج جای، آرام کرئج جای۔ تمہہ کس رت آسہ ہنھونہ وئوئوی کینہہ۔ ویوقر  
 تَتَّقُوْا الصّٰمِتٰتِ الْعٰمٰتِ وَنَزَلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا ۱۵) یہ سہمہ دوہہ آسمان اکہ بڈہ ابرہہ سیت پھلہ، یہ سہ سہن والہ  
 سارنی آسمان ہند ملائک ہنس پتہ زمینس پیئجہ بکثرت تھی وقتہ کرہ اللہ تعالیٰ حساب و کتابہ خیطرہ ہن  
 قتل۔ الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْخَبِيرُ لِلرَّحْمَنِ ۱۶) تمہہ دوہہ آسہ سوزوی ملک حقیقتہ پانٹھ حضرت رحمانہ سزوی۔  
 یعنی حساب و کتابہ جزاء و سزاء س منز آسہ نہ کانسہ ہند دخل۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا  
 یہ آسہ سووہہ کافر ہندہ حقہ سبھا کڈرہ کر پوٹھ وَيَوْمَ يَعْصُ الظّٰلِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ ۱۷) یہ سہ تھی دوہہ ظالم  
 نہ تا فرمان اتھن پنہ نین رپہ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ اَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ۱۸) یہ تھی دوہہ ظالم، ای  
 کاش کیاہ رت گورہہ ہامیانہ حقہ ہر گاہہ رموہہ آسہ رسول خدا کس سیت روتہ وئج وئتھ يٰوَيْلَتِيْ لَيْتَنِيْ  
 لَمْ اَتَّخِذْ فُلًا نَّٰخِلِيْلاً ۱۹) افسوس، کاشیہ مہ آسہ ہانہ فلان ہدیارس سیت دوستی لاجنمو لَقَدْ اَضَلَّنِيْ  
 عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِيْ ۲۰) ہنر پات تھی کم عقن ڈوکس نو قرآن مجیدہ کین احکامن پیئجہ عمل کرنہ لظہر،  
 تم احکام مہ لظہر واتھ۔ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسٰنِ خَدُوْلًا ۲۱) شیطان ہنھو انسانس عین مؤئس پیئجہ مدد  
 کرنہ لظہر پتہ ژلان وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنِّىْ قَوْمِيْ اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ۲۲) فرماؤن تمہہ دوہہ  
 پیغبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ای میانہ پروردگارہ، ہنر پات میان سہم قومن زدن یہ قرآن مجید کس  
 واجب العمل لوس، نہ ہودہ کلامہ یاروہ تم لظہر دور، لظہر موجب کر کہ نہ کانسہ عملاء، یہ کوز کہ بالکل

نَبِيِّ عَدُوٍّ مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿۲۱﴾  
 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً  
 وَاحِدَةً ۗ كَذَٰلِكَ ۙ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿۲۲﴾  
 وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿۲۳﴾ الَّذِينَ  
 يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ  
 سَبِيلًا ﴿۲۴﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ

نظر انداز، اتھ کو رکھ نہ کا نہ التفاتاً، عمل کرے محمد تعالیٰ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوٍّ مِّنَ الْمُجْرِمِينَ  
 اتھ پائے ہم لو کہ ہجرت تھیں دشمن تھے پانچ کمر آسہ نافرمانوں اندرہ پر تھے پنجمبر سید دشمن، یہ نو کتھاہ ہجرت  
 کہتے۔ تمو پنجمبر دتھ پائے صبر کو تھے پانچ کمر دتھ تھے صبر وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا بس ہجو توبہ  
 پن پروردگار ہدایت کر وان۔ کافر دتھ ہمیشہ پنجمبر ان ہنز مخالفت کمر مڑ، لہذا آتھ نہ امیک کا نہ غم  
 کیون۔ اللہ تعالیٰ مسدہ تھ ہدایت یرتھ تھ کہ ہدایت، نئس ہدایت تھ محرم روزہ تو پتہ ہر سو توبہ  
 ایذاہ تکلیف وان ہوان۔ دوشون جان اندر تھو اللہ تعالیٰ تھرت، توبہ کافی وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
 لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً یہ ہجرت ہان کافر یہ قرآن مجید کوند آونازل کرند  
 حضرت محمد ﷺ پیٹھ یکہ وند، ہاکی ہجرہ كَذَٰلِكَ اسہ کور نازل یہ ہنہ ہنہ، آہستہ، آہستہ۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ  
 فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا تھ در راؤ اس اسہ سیت تھرت دل۔ ای نو کہ کور قرآن مجید اسہ نازل وارہ  
 وارہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا یہ ہجرت ہم دشمن توبہ تھہ کا نہ کتھاہ یا مثالاہ  
 توبہ پیٹھ یا قرآن مجید س پیٹھ طعنہ زنی خیطرہ پیش کران۔ مگر اس ہجرت تھرت ہدل تمن تھن ہنہ پوز  
 جواب یہ تھہ خود زت معنی بیان کمر ت توبہ تھہ داستان۔ یہ گو قوی جواب۔ دون نئس عملی جواب یہ  
 دنہ تمن سو گو الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ہم گئے تھے  
 لو کہ ہم کلہ و کر من کمر ت تھہ کھکھر دن پکانونہ سو نیراونہ جھنئس من۔ تم آسن جا یہ کن سیتھاہ ہرت

وَزَيْرًا ﴿۳۵﴾ فَقُلْنَا أَذْهَبَ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمْزَلُهُمْ  
 تَدْمِيرًا ﴿۳۶﴾ وَقَوْمِ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَخْرَجْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ  
 آيَةً ۖ وَاعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿۳۷﴾ وَعَادًا وَشَمُودًا وَ  
 أَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿۳۸﴾ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ  
 الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَرْنَا تَبِيرًا ﴿۳۹﴾ وَلَقَدْ آتَوْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي  
 أُمُطِرَتْ مَطَرًا سَوِيًّا أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا

وہ کہ سنہاء ذلت و لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ آفَاقَهُ لَهْرُونَ وَزَيْرًا تخمین یہ کمر اُسے عطا موسیٰ  
 علیہ السلاطین کتاب یعنی تورات۔ یہ کمر اُسے سب کتاب عطا کرنے پر دیکھ لوی تہجد ہارون علیہ السلام تسبیح  
 وزیرتہ مددگار فَقُلْنَا أَذْهَبَ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا تمہے پہلے کور حکم اُسے تمن دوشون کہ گھوجو تہ  
 دوشوے تبلیغ و ہدایت کرنے خیرہ تمن لوکن بغیر سموا پر زان سان توحیدک آیات تو پہلے گئے تم  
 دوشوے صاحب، کوزک فرعونس تہ جہدس قومس تبلیغ مگر تمومون نہ کہینہ تہ۔ ذَمَّزَلْنَاهُمْ تَدْمِيرًا  
 ادہ گال تم اُسے مولہ مونیجہ۔ چنانچہ تہجد غرق سپدن بخو مشورہ معزوف وَقَوْمِ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ  
 أَخْرَجْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً یہ بلکہ حضرت نوح سے قومس انکار کر بیگمیرن اُسے پھاؤ تم آہس اندر یہ  
 بناؤ اُسے تم لوکن ہندہ خیرہ اکھ بھاناہ یہ گوڈنیاء س اندر وَاعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا یہ بخو اُسے  
 تیار تھوومت آخرس اندر تمن ظالمن تہ نافرمان ہندہ خیرہ کڈر عذاب وَعَادًا وَشَمُودًا وَأَصْحَابَ  
 الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا یہ کور اُسے ہلاک قوم عاد یہ قوم شمود یہ کیر وال (رس جہد و مان عربی  
 پاٹ کیرس) یہ تمن منزباگ سمہ واریاہ نافرمان اُسو آسہ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَرْنَا  
 تَبِيرًا یہ کمر بیان اُسے تمن سارنی ہندہ ہدایت خیرہ عجیب عجیب تہ موثر مضامن۔ مگر بلکہ نہ تمو کہینہ  
 تہ مون ادہ گال اُسے تم ساری وَلَقَدْ آتَوْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمُطِرَتْ مَطَرًا سَوِيًّا پڑپاٹ یہ پاک تہ گڈرے  
 سم مٹر کین عرب شامہ کس سفرس منز تمہ شہرہ کن تہ منز قوم لوط بسان آس۔ تہ شہرس لوس ناؤ

يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿۳۱﴾ وَإِذَا رَأَوْكَ إِذَا بُعِثْتَ مِنَ الْأَمْوَاتِ أَهَذَا  
الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿۳۲﴾ إِنْ كَادَ لِيُضِلَّنَا عَنْ الْهَيْئَةِ  
الَّتِي صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ  
مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿۳۳﴾ أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ  
تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿۳۴﴾ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ

”سدوم“ تمن آوٹا فرمائی ہمدہ سبب آسمان پر طرف سے زود کرنے یعنی تمہے آگے تر لوٹے زود کر پانچہ آفتم  
يَكُونُوا يَرَوْنَهَا كَيَاہ سم منگب کافر چھنا و چھان تم شر تا اینکه عبرت رہے ہن بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ  
نُشُورًا عبرت نہ رہے وچہ ہٹھونہ یہ کہ تم کیا ہجھتہ تم شر و چھان بلکہ ہجھتہ تمن مرنہ پتہ زندہ گوشج  
کاسہ امیداء تہ پڑھاہ۔ کیا زہ تم ہجھہ آخر تمس انکار کران۔ سم کافر ہجھہ امت شریر کہ وَإِذَا رَأَوْكَ إِذَا  
بُعِثْتَ مِنَ الْأَمْوَاتِ علیہ تم توبہ و چھان ہجھہ یار رسول اللہ ﷺ تمن ہجھتہ کاسہ کاسہ ساتہ توبہ نسبت  
ٹھٹھہ کرنے و رائے و مان ہجھہ تم أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا کیا ہوئے شخص سوزہ اللہ تعالیٰ ان  
تغیر یہ ہٹھونہ تغیر ہی لائیں۔ مگر کلام تہ کتہہ آسمنزہ ہجھہ سینہاہ مؤثر ان كَادَ لِيُضِلَّنَا عَنْ الْهَيْئَةِ  
لَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا تمہہ جادو بیانی سیت اوس قریب کہ یہ ڈالہ ہائہ پتہ نیو معبود و نہہ۔ ہر گاہ لے اس  
تمن معبودان ہمزہ پر ہجھہ پیٹھہ ثابت قدم روزہ ہو۔ پانس ہجھہ تمہا نے زانان ہدائیس پیٹھہ۔ تغیر س ہجھہ  
زانان ڈولت۔ اللہ تعالیٰ ہٹھو فرماوان ہجھہ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا  
برونٹھہ ہن زانن تم مرنہ پتہ علیہ وارہ پاٹ و ہجھن عذاب کہ تمہہ اکھاہ اوس و تہ نہہ ڈولت اَرَأَيْتَ مَنْ  
اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ای تغیر ہجھہ و ہجھو ہز تمس شخصہ سزہ حالت سم ہن خدا ہٹھو ہنومت پتہ فصیح خواہش  
أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا کیا ہجھہ تلوہ پانس پیٹھہ ذمہ داری کہ ہٹھن ہوا پر ہن کیا ہجھہ وہ ہجھہ  
ہدائت۔ ہو سہ کتھہ خواہہہ مطابق آیکھہ سو کرن قبول ہو سہ نہ خواہش موافق آیکھہ تھہ کرن رود۔ از  
و ہجھہ اکھ کتھہاہ جان ہن تہ تھہ کر کہ پر ہٹھش پگاہ و ہجھہہ ہیا کہ کینہہ تمہہ خوتہ جان ہن تھہ ہز کہ



أَوْ يَعْقُلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝۳۲  
 أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ  
 جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝۳۳ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۝۳۴  
 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ  
 النَّهَارَ نُشُورًا ۝۳۵ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ  
 رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۝۳۶ لِنُنْحِيَ بِهٖ بَلَدًا

پرستش مگر ان امرتصیب ان اکثرهم یسعون اویعقلون بند توہم بخو کہہ گمانہ زہ تمواندرہ کیاہ  
 ہجہ زیادہ بوزان فہمہ کلام شریف یا کیا بخو کہ سو فخرہ تران کینہہ۔ سو گمانے منہ کمر و فہمہ۔ اِن ہُم اِلا  
 کالانعام بل ہُم اَضَلُّ سَبِيلًا تم ہجہ مگر چار پاء ہی ہجہ چار پاء ن چار پاء ن ہجہ خوتہ یز و اوست و تہ  
 بعہ اَلَمْ تَرَ اِلٰی رَبِّکَ کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَ لَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاکِنًا کیاہ ژہ و تخت نای و چھوہ پتہ نس  
 پروردگارہ سدس قدر نس کن کہ تہہ پانہ بخوز شمر او ان سایہ ، بلہ آفتاب بخو کھسان ، تمہ ساتہ بخو  
 تمہ سارنی چیزن ہند سایہ ز یونٹھ آسان ہم چیز دو تھدیہ آس۔ ہر گاہ سو یڑھہ ہاتھہ سائس تھاوہ ہا کھشی  
 جاہہ ٹھراوت تَمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَیْهِ دَلِیْلًا تو پتہ کورایہ آفتاب امہ سائیک ظاہری علامت۔ آفتابہ  
 سیتی بخو بوزنہ یوان امہ سائیک ز ٹھنن تہ ژھون۔ آفتاب نے آسایہ پتہ ہاند بوزنہ تَمَّ قَبَضْنَاهُ اِلَیْنَا  
 قَبْضًا یَسِیْرًا تو پتہ جھن اُس سو سایہ پانس گن رمان ہنہ ہنہ۔ بالاخر بخو سو سایہ معدوم سپہ ان  
 وَهُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ اللَّیْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ہہ گو سو ہنہ و دگار سوئی ہم رات  
 کمر فہمہ ہ خطرہ پر دک چیز ، ہہ ہم ندر کمر راحت و آرامک چیز۔ ہہ ہم دودہ کور زندہ سپہ نک تہ اورہ  
 یور کرہ نک وقت وَهُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ الرِّیْحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَی رَحْمَتِہ ہہ گو سو پروردگار سوئی۔ نس  
 ولوتر او ان بخو خو شجر ہتھہ پتہ رحمتہ برد تھہ یعنی زود ترانہ برد تھہ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ہہ  
 ترودایہ آسانکہ طرفہ آب نس پاک و صاف کردون چیز او بخو لِنُنْحِیْ بِهٖ بَلَدًا مَیْتًا تھہ اُس زندہ

مَيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْ آسَى كَثِيرًا ۝ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهِمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ تَذِيرًا ۝ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ۝ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ۝

کردن تمه آبه سیت مومت زمین وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْ آسَى كَثِيرًا بیہ چاروکه سو آب پنہ نیو مخلوقو آندره دریاہ چارپاہ بیہ دریاہ انسان وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهِمْ لِيَذَكَّرُوا پنہ پات ابہ کور تقسیم سو آب تمن لو کن منز بقدر مصلحت بیخہ تم غور بہ فکر کرن کہ تم چیز چخہ کانہہ قدر بہ وال سدرس اختیارس اندرئس سزاوار عبادت بخو۔ تمسزہ نعمو ڈیتس پاوت کرن شکر گذاری قَابِیْ اَکْثَرِ النَّاسِ اِلَّا کُفُورًا مگر اکثر لو کو کور نہ کینہہ بہ کفران نعمہ درای وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ تَذِيرًا بیہ ہر گاہ اُس بیخہ ہو اُس سوزہ ہون پریتخہ شرس اندر اکھ اکھ پیغمبر اکرم سوزنہ کانہہ پیغمبر اکرم کیا زہ خبہ سوزنہ آسہ یارسول اللہ سار سنی عالس من منی صاحب قیاس تان۔ بیخہ توبہ پورہ امیک ثواب حاصل سپدہ آسہ نعمتک شکرانہ بخو کہ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا کَبِيرًا تمہہ گوہن نہ مانہ کافران ہنزہ تمہ۔ ہنز خواہش بخو کہ تبلیغ اسلام گوہن نہ سپد نوی یا گوڑھ کم کم سپدن مگر ہنزہ گوہن نہ مانہ تمن کافران ہنزہ تمہ بلکہ گوہن تمن سیت ای قرآن مجیدہ سیت زبردست مقابلہ کرن وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ بیہ گو سو پروردگار سوئی ہم ملہ ناؤ مختلف زہ دریا هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ تمہہ دریاؤک آب بخو سینہاہ میوٹخہ بہ تسکین بخش۔ ایک آب بخو نون سینہاہ ڈوش بہ میوٹخہ باوجود اختلاف ظاہری بخو بیہ آب پنہ نس حاکس بیخہ بیہ آب پنہ نس حاکس بیخہ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا تمن دون دریاؤن منز کور اللہ تعالی ان اکھ ٹھوراہ ئس نہ تمن اکھ ائس سیت رنہ

وَصَهْرًا ۞ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ  
 مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۞ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ  
 ظَهِيرًا ۞ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ  
 عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۞

دوان بخو وھو الذی خلق من الماء بشرا ۞ گو سو پروردگار سوی سم آب لطفس کور انسان پیدہ۔  
 فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصَهْرًا ۞ تو پتہ کوزن سو انسان خاندانہ دول۔ چنانچہ مول پدب و غیرہ گو شرعی  
 خاندان، سوج، نان و غیرہ گو عرفی خاندان۔ یم تعلقہ ار جھس پیدہ سپدہ و کوئی پیدہ سپد ان پتہ عیلہ اس  
 نتیقر کر نہ بلان بخو تمہ سیت جھس بے رشتہ دار، ہنش، ہنہ ہر، ہنہر و غیرہ پیدہ سپد ان یہ بخو  
 پروردگارہ سندہ قدر حج دلیل ۞ کہ لطفہ کیاہ چیز کوس۔ وئن کیاہ سپد۔ لبت رشتہ ۞ تعلقات سپدس پیدہ۔  
 یمہ بخو یہ نعمت ۞۔ سمو تعلقا تو سیت بخو اس اناس مولوت ۞ مدد حاصل سپد ان وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا  
 ای مخاطب چون پروردگار بخو سی شاہ قدر ۞ دول نتیقر کمالہ ولس خدیہ سزی شوبہ با عبادت ۞ بندگی  
 کرن مگر اسوس وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۞ سبے انسان جھہ پرستش  
 کران معبود جس و رای تمئی چیزن ہنز سم نہ تمین کا نہ نفع یکن و اتاوت کا نہ ضرر وَكَانَ الْكَافِرُ  
 عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ۞ واقعی بخو یہ با فرمان انسان پنہ نس پروردگار س من ظھر پھر ان ۞ مخالفت کران۔  
 سو تراوت بخو بین ہنز پرستش کران۔ مگر جھہ گومہ نہ اتھہ پیٹھہ یار سول اللہ غمگین سپد ان کیا زہ و مَا  
 أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ اسہ نہ حض سوزوہ توبہ مگر خوشخبری بوزناونہ خیطرہ با ایمان، بیم کرنہ  
 خیطرہ کافرن ۞ با فرمان جھہ ایمان نہ اللہ سیت ۞ پڑھ نہ کرنہ سیت بخو نہ توبہ کا نہ نقصان لہذا کیا زہ  
 سپد یونہہ غمگین قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۞ فرماو کہ  
 ای کو کو، بو بخوس نہ منگان توبہ اتھہ خوشخبری ۞ بیم کرنہ پیٹھہ کا نہ مزدور یاہ مگر بو بخوس خواہش  
 کران کہ توبہ ہنزہ یمہ نا کا نہ شخصہاہ پنہ لس خدائس من و تمہ، جھہ قرب ڈھانڈ نہ خیطرہ یمہ ہائین،

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيَحْمِلُ حَمْلَهُمْ وَكَفَىٰ بِهِ  
 بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ۝۱۰۱ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا  
 بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَأَلُ  
 بِهِ خَبِيرًا ۝۱۰۲ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا  
 الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۝۱۰۳ تَبَارَكَ الَّذِي  
 جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۝۱۰۴  
 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَن أَرَادَ أَن يَذَّكُرَ

سوی آس نَس میان مُزود و تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ یہ کمر و تکیہ اعتماد = ڈکھ جتھ تہلجی کاسہ  
 اندر نَس زندس پیٹھ نَس نہ زانہ مرہ و سَيَحْمِلُ حَمْلَهُمْ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا یہ کمر و یاد تہند  
 ہپاکی۔ یہ دیوس حمد۔ سُو بٹھو پنہ نین بدن ہندین گھنن ہند ہور واقف = خبردار ۱۰۱ الَّذِي خَلَقَ  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ اسم پروردگارن آسمانہ = زمین بیہ = تہن منز بٹھو پیدہ  
 کور شین و ہن ہدس مندس اندر کَمَا اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ تم پتہ سپہ مستوی عرش پیٹھ تھہ پانہ  
 تھہ پانہ حمدس شانس سزاوار بٹھو الرَّحْمَنُ فَسَأَلُ بِهِ خَبِيرًا سُو بٹھو سینہار حم کردن۔ نَس پر تھہ  
 تھہ شان تھہ کاسہ زانہ و نَس سُو ہاوی تھہ ہنزر رحمت کا تھہ بٹھہ ۱۰۲ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا  
 وَمَا الرَّحْمَنُ یہ بلہ وندہ یوان بٹھو تہن کافرن دیو سجدہ اس رحمت و اس خدانس۔ دیان بٹھہ تم  
 رحمان کیاہ گو اَنْسَجِدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا کیاہ اَس دموہ سجدہ نَس، نَس تھہ دیو سجدہ دس۔ تہن  
 بٹھو یہ ورن زیادہ دور کران۔ یہ بوزنہ سیت چھ تہن زیادہ تھہ کھسان کھر و عنادس اندر۔ تَبَارَكَ الَّذِي  
 جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا سینہار ہا برکت = عالیشان بٹھو سُو ذات پاک  
 نیم آسمانن منزہ باہ ہرنج پیدہ کمر۔ بیہ کرن آسمانن اندر آفتاب تھو گ۔ کیاہ تھہ منزہ بٹھو نورہ، گری تھہ

أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۖ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ  
 هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۗ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ  
 لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۗ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا  
 عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۗ إِنَّهَا سَاءَتْ  
 مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۗ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ  
 يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۗ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ

یہ کرن زون نہ نہ کرہ دن۔ تھے منزوری نوت گرمی درای وھو الذی جعل الیل والنھار خلقة  
 یمن اراد ان یدکر اواراد شکورا یہ گو سون پروردگار سنی سم رات نہ دودہ کوراکھ اگس پتہ اودہ دن نہ  
 گوہہ ون تمس شخصہ سیدہ فخرہ ترنہ خیطرہ نئس شخص فخرہ ترن یضہہ یا یضہہ اہس قدر نہ ولس منعم  
 حقیقیس یمن نعمون پیٹھ شکر زین۔ لمہ تمسک لوکھ گے عباد الرحمن۔ لمہ پتہ جہہ جہد صفت بیان  
 یوان کرنہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا حضرت رحمانہ سید خاص بندہ گے تھے سم  
 پکان چھ زمیہ پیٹھ نرمی سان واذ الخاطبہم الجاہلون قالوا سلما یہ یلہ تمن سیت جاہل نہ نادان لوک  
 گفتگو کرنہ لگان جہہ تم جھک پنہ طرفہ سلام کران۔ جہزن ناشایان گھن ہند جہنہ تم کانہ جواب  
 ودان والذین یدعون لربہم سجدا وقیاما یہ سم رات گذاران جہہ پنہ بس ہروردگار سن سجدہ  
 ودان نہ دو تھ نہ روزان یعنی نمازہ پران، باوجود آں چھ پروردگار س کھوژان والذین یقولون ربنا  
 اصرف عنا عذاب جہنم یہ سم کھوژنہ سوکھ دعا جہہ کران ای سانہ پروردگارہ دور کر اسہ بھہ  
 جہنمک عذاب ان عذابا کان غراما ہز پات تمیک عذاب ہٹھو تہای نلہ دن، لاریت گوہہ دن  
 انھا ساءت مستقرا ومقاما ہز پات سو جہنم ہٹھو سینہا ہٹھو جہی۔ روزنہ خیطرہ یہ ہنہ خیطرہ  
 والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواما یہ تم لوک سم یلہ خرچ کران  
 جہہ مال ہن تھے منزہہ جہہ زیادتی کران نہ جہہ کی کران بلجہ ہٹھو جہد خرچ کرن آسان من دون حالتن

مَعَ اللَّهِ الْهَاهُنَا وَالْآخِرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا  
 بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ  
 يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۖ ۱۹  
 تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ  
 حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۖ ۲۰ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا  
 فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۖ ۲۱ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ


منزہاگ برابر برابر افراط و تفریط و راکی و الذین لا یدعون مع اللہ الہا الخو یہ ہم عبادت نہ پرستش  
 بہجند کران خدائیں سیت یہ کاسہ معبودہ سنز و لا یقتلون النفس الٹی حرّم اللہ الا بالحق یہ ہم  
 ناحق کاسہ شخصس ماران نہ قتل بہجند کران ہمہد مازن خدائن حرام کورمت ہجو مگرے کا نہ شخصصاہ  
 تہہ مستحق آہہ سکو ہجند بادشاہ وقتہ سنز کوم، عام لوکن ہنز گودہ نہ سکو پنہ بس افسس منزین۔ ولا  
 یزکون یہ ہم زنا بہجند کران و من یفعل ذلك یلقی اثمًا نیس اکھاہ سمہ کاسہ کرہ یعنی شرک  
 بخدا نہ، یہ قتل ناحق کرہ یہ زنا کرہ، ہجند پاتہ منک مشرک کران آس سونکہ تمیک سزا یضعف لہ  
 العذاب یوم القیامۃ و یخلد فیہ مہانًا دو گناوند یہ شہدہ خیطر و عذاب قیامتک دوہ، یہ روزہ سوتہ  
 عذاب نیس اندر ہمیشہ خوار نہ ذلیل۔ الا من تاب و امن و عمل صالحا مگر ہم شرک و معاصی ریشہ توبہ  
 کرن، ایمان امن، توبہ کرن رزہ عملہ فأولیک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات نیس تمن لوکن بدلاؤ اللہ  
 تعالی گناہ جہد نیکن سیت و کان اللہ غفوراً رحیماً اللہ تعالی ہجو مغفرت کرہ ان۔ حمہ منو کھ مہتان  
 جہد گناہ۔ سیشاہر حم کرہ ان حمہ منو کھ لیکن تمن مہو بدل نیکی۔ یہ اوس اوتان تمن لوکن ہمہہ خیطرہ ہم  
 مگر ریشہ توبہ کرن۔ اہہ پتہ ہجو اللہ تعالی فرماوان ہم با ایمان مہو ریشہ توبہ کرن جہد حال و من تاب  
 و عمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متاباً یہ نیس با ایمان مہو ریشہ توبہ کرہ، خدائیں کن رجوع عسرت  
 رزہ عملہ کرہ یعنی آئندہ روزہ مہو ریشہ ہجند، سوتہ روزہ عذابہ ریشہ محفوظ۔ کیا زہ سون شخصس ہجو پھیران،

إِذَا مَرُّوا بِاللُّغُومِ مَرْوًا كَرَامًا ۝ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ كُمُ  
يَخِرُّوْنَ عَلَيْهَا صُمًّا وَعَعْيَانًا ۝ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا  
مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۝  
أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ۝

مترجمہ سپیدان خدا نرس کن۔ خاص طریقہ۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْعُرُونَ الزُّلْمَةَ بِمِ مسم شامل، جہنہ سپیدان اپزین =  
ہو وہ معاملن = کھن اندر یعنی سم نہ اپز و تان جہنہ۔ نہ اپز گوانی دوران جہنہ کھن۔ نہ کہو الجھن = خلاف  
شرع مجلسن منز گودھان جہنہ۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللُّغُومِ مَرْوًا كَرَامًا = سم اتفاقاً، بلا قصد، لہو و لعب، فضول کامیو  
کن گڈران جہنہ شہہ سادہ جہنہ گڈران شریفانہ طریقس منز شو کن التفات = خواہش کرنے و رای۔ وَالَّذِينَ  
إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ كُمُ يَخِرُّوْنَ عَلَيْهَا صُمًّا وَعَعْيَانًا = یہ بلکہ تمہن پنہ نس پروردگارہ سند یو آیا توسیت  
فصیحت کرنے یوان ہنخہ سمہ سادہ جہنہ تم زر = ان ہی و س پیوان بلکہ جہنہ بگوش و ہوش وارہ بوزان  
وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ = یہ جہنہ پانخہ تم پانہ وان اسلامک  
شیدائی جہنہ شہہ پات جہنہ یڑھان سان فر باڑہ گودھہ دینک عاشق بن۔ چنانچہ دعا جہنہ منکان ای سانہ  
پروردگارہ عطا کر اسہ یہ پنہ نمین زنانہ ہندہ طرفہ = لولادان ہندہ طرفہ سو چیز سمہ سیت سانہ آجہنہ  
شہلن = قرار زن یعنی تم = کر کھنہ دیندار، عبادت گزار سمہ سانہ آجہنہ شہلن تم و صحبت۔ وَاجْعَلْنَا  
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا = یہ کہہ اسہ پر ہیز گارن ہندہ زہنہ۔ یو طیلہ پنہ گزک زہنہ کور کھن میانہ گزک باڑ  
کر کھنہ منتی = پر ہیز گار بوسپدہ پاپائے مستمن ہندہ امام = زہنہ۔ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ  
فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا = یعنی لو کن یہ مزدوردنہ جنگ تھہ بنگلہ۔ و نیاء س اندر دین و اطاعتس پنہ صبر کر نس  
= ثابت قدم روز نس ہڈل بیہ آسکھہ تمہن جہنن منز ملاکن ہندہ طرفہ تعظیم = سلامہ کرنے یوان  
خَلِيدِينَ فِيهَا = تمہن جہنن اندر روزن تم ہیشہ حَسَبَتْ مُسْتَقَرًّا أَوْ مَعْلَمًا = کیاہ زڑ جلیاہ ہنخہ جنت روزنہ

خَلِدِينَ فِيهَا حَسَنَتْ مُسْتَقَرًّا أَوْ مَقَامًا ﴿۶۷﴾ قُلْ مَا يَعْبُوا بِكُمْ  
رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿۶۸﴾

خاطرہ نہ اُسے خاطرہ قُلْ مَا يَعْبُوا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ خبہ فرما دو عام سارنی لو کن کن یار سؤل اللہ  
میں پروردگارہ کرہ نہ غنہ قسمہ کانسہ پرواہر گاہ خبہ قسمز عبادت کرونہ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ تھمیں توبہ کور وہ  
آدکام البین تم اہذ زابت انکار فسوف یكون لزاما وکن وہ جو برو نٹھ مکن، سوا انکار تھمیں توبہ  
زنگن وکن یعنی تمیک سزایہ توبہ ضرور ہونہ۔





## سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 طَسَّرَ ① تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ② لَعَلَّكَ بَآخِعٌ  
 نَفْسِكَ ③ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ④ إِنَّ نَسْأَنُزَّلُ عَلَيْهِمْ  
 مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَافُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ⑤  
 وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ  
 مُعْرِضِينَ ⑥ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءٌ مِمَّا كَانُوا بِهِ

طَسَّرَ سم جھرِ حروف مقطعات سم من ہند معنی زلہ پانہ خدا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ سم مضامین سم توہمہ پیچھے نازل سپدان جھر، سم جھر آیات تمہہ کتابہ ہند یوسہ سوزوی نراوہ و ان ہنصہ، پوزکیاہ ہنحوہز کیاہ ہنحوہ۔ تم لوک سم پڑھ ہنجدہ کران، منہ کمر تن۔ تہہ کیازہ ہنحوہ ہوت نمگلین سپدان لَعَلَّكَ بَآخِعٌ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ شاید تہہ مازاویون ہنر تہہ ہن پان سمہ نمہ سمیت کہہ کونہ جھہ ایمان انان ہنچہ قرآن مجید س۔ تہہ منہ ہنر کہیو امیک نم ان نَسْأَنُزَّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَافُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ہر گاہ آس یزدخو تم کرو کہ جبراً مسلمان ہنچہ پاٹ کہہ آس سوزو تن پیچہ آسلیجہ طرفہ اکھ نشانہ سمہ سمیت تن اختیارے سلب سپدہ۔ ہنزدہ گردنہ تن ہن ہن کن۔ چارہ لیکھ نہ کہنہ نہ ایمان اندہ و رای۔ مگر آس گرونہ نہ۔ کیازہ نہ کرنہ سمیت ہنحوہ آزمائش نہ امتحان باقی روزان مگر تن ہنر حالت ہنچہ کہہ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ہنچہ داتان تن ریشہ حضرت رحمانہ سبہ طرفہ کانہ لیکتاہ و عطاہ، نووہ تازہ مگر تم جھہ تمہہ ریشہ تہہ ہنر ان فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءٌ مِمَّا كَانُوا بِهِ یَسْتَهْزِئُونَ چنانچہ ہوت پیچہ واثر نوبت کہہ سموون قرآن مجید ہنحوہ ہنر آس اعراضک ہیر سم درجہ ہنحوہ۔ اتھ کن نظر کرت و دھہ نہ

يَسْتَهْزِءُونَ<sup>۱۰</sup> أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَأْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ  
 زَوْجٍ كَرِيمٍ<sup>۱۱</sup> إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ<sup>۱۲</sup>  
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ<sup>۱۳</sup> وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنْ  
 أَنْتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ<sup>۱۴</sup> قَوْمَ فِرْعَوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالِ رَبِّ  
 إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ<sup>۱۵</sup> وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي  
 فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ<sup>۱۶</sup> وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ<sup>۱۷</sup>

ہنحو اپن۔ امہ علاوہ کمر کہ اتھ قرآن مجید س شخص۔ وون ولہ تم ہنہ خبر تمہہ تحقیق ہنہ سم شخصہ  
 کران آس بلہ عذائس گر فادگرو من اولم یروا الی الارض کما انبتنا فیہا من کل زوج کریم کیاہ  
 سموو چھانت ز میس کن کہ کاتیاہ ر تین ر تین گلین ہنہ ہنہ کھا ر امہ امہ زمینہ منزہ۔ ان فی ذلک لایۃ  
 بیشک ہنہ اتھ منزسانہ قدر تک ہنہ۔ وما کان اکثرہم مؤمنین مگر سمو اندرہ ہنہ اکثر سم نہ پڑھی  
 کران ہنہ۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم ہنہ پات ہنہ پروردگار ہنہ سینہاہ غالب سینہاہ رحمتہ دول  
 واذ نادى ربک موسیٰ سم لو کن فرماوہ تمہہ وکل قبضہ ہنہ تم عبرت ر تین۔ نکلہ آلو ذیت ہنہ  
 پروردگارن موسیٰ کلیم اللہس ان انت القوم الظالمین کہ تبلیغ کرنے گوہو ہنہ فرمان قوس قوم فرعون  
 یعنی فرعونہ سدس قوس الایقون کیاہ کھوژان چھانتہ سانس قوس ہنہ۔ کیاہ ہنہ روزان  
 نام سانہ نافرمانی ہنہ قال رب انی اخاف ان یکذبون حضرت موسیٰ ان ڈوپ خدایا ہو ہنہ س گروہنہ  
 خیطرہ تیار مگر تیم ہنہ ہمہ زہ ہمہ مازانہ امہ اپزبور و یضیق صدری سمہ سیت سپدہ نکل دل میون ولا  
 یطریق لسانی مہ پھورہ نہ زیوہ کنی فأرسل ال ہارون نہس سوز کھناژہ وحی میانس برادر ہارونہس۔  
 سونہ کرہ عن ہنہ تو پتہ پچہ ہا سونہ مہ سیت۔ ہر گاہ ہم اپزبور زانہ ہنہ سوز کرہ ہامہ تصدیق ولہم علی  
 ذنب فلخاف ان یقتلون ہنہ ہنہ مہ بیا کہ عرض کہ مہ پیٹہ ہنہ ہنہ اکہ ہر ماہ۔ مہ ہنہ خطرہ گودھان  
 تمہہ سوز کہ ماازن تمہہ قال کلا اللہ تعالیٰ ان فرموا س ہنہ ہنہ ہر گز۔ ژہ ہنہ نہ اتھ لاگت کانسہ۔

قَالَ كَلَّا ۖ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمْعُونَ ﴿۱۵﴾ فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ  
 فَقُوْلَا اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۶﴾ اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اِسْرٰءِيْلَ ﴿۱۷﴾  
 قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فَيٰنَا وَاٰلِهٰتِنَا فَيٰنَا مِنْ عِبْرِكَ سِيْنٍ ﴿۱۸﴾  
 وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۹﴾ قَالَ فَعَلْتُمَا  
 اِذَا وَاَنَا مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۲۰﴾ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْ فَوَهَبَ لِيْ  
 رَبِّيْ حُكْمًا وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۲۱﴾ لَوْ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُّهَا عَلَيَّ

اِسْمِ كَمْر عطا ہارون علیہ السلام بنیامری فاذهبنا بایتنا انا معکم مستمعون پس فرعون تو ہیہ دو شوے  
 میان آیات ہتھ اُس تہ ہتھ نصرت و امداد کرنہ خبطرہ تو ہیہ۔ سیت بوزان تہہ گفتگو فاتیافرعون  
 فقولا انا رسول رب العالمین نس و اتو تہہ دو شوے فرعونس ہتھ۔ تو پتہ دیوس اس دو شوے  
 ہتھ تہ کن بنیامری پروردگار عالیہ سبہ طرفہ دعوت توحیدس سیت یہ حکم ہتھ آست کہ ان ارسیل معنا  
 بنی اسرائیل آزاد کر کہ تہ بنی اسرائیل ظلمہ ہتھ یہ تہ تہ من اصلی وطن شامس کن لسہ سیت  
 گروہند۔ تم دو شوے گئے فرعونس ہتھ۔ نس و اتو تہہ یہ پیغام۔ فرعون بوزہ ہتھ سارے تہہ تو پتہ  
 دو تہہ موسیٰ علیہ السلامس کن اوہ ہو۔ تہہ ہتھ ہتھ حض آست۔ قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فَيٰنَا وَاٰلِهٰتِنَا  
 مِنْ عِبْرِكَ سِيْنٍ فرعون دو نس تہہ ماہتک سوی نس اِسْمِ زبواہ ونب پانہ پیٹہ پرورش کمر مڑ ہتھ۔ یہ  
 زود کہ تہ اِسْمِ ہتھ عمر ہتھ ہتھ وار ہتھ ورنہن وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ یہ  
 کوزت تہ سو مجرم نس تہہ کوزتہہ (یعنی اکہ قبلی، سانہ قومک اکہ شخصس مور تھن) یہ ہتھ تہہ تو پتہ تہ  
 کمر ان نعمت کرہ و نبو اندرہ سانہ احسانات تھی نہ یادے۔ یہ ہتھ تہہ از آست مہ کن تابع ہتھ خبطرہ  
 قَالَ فَعَلْتُمَا اِذَا وَاَنَا مِنَ الصّٰلِحِيْنَ موسیٰ علیہ السلامس دو کس واقعی مہ کمر سو حرکت، مہ کہیہ سو  
 غلطی۔ عمد اکورنہ مہ سو شخص قتل بلکہ کر یومہ نس تہہ غلطی پیٹہ تہہہ مگر سو نمود طی سیت۔ قصدا  
 مورنہ سو ففررت منکم لمتا خفتکم فوهب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین تو پتہ علیہ تو تہہ

۲۱) **أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ** ۲۲) **قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ** ۲۳)  
**قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّكُمْ مُوقِنِينَ** ۲۴)  
**قَالَ لَيْسَ حَوْلَهُ إِلَّا السَّمْعُونَ** ۲۵) **قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ**  
**الْأَوَّلِينَ** ۲۶) **قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ** ۲۷)  
**قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّكُمْ تَعْقِلُونَ** ۲۸)

کھو ڈس یو ڈوکس توہہ نشہ۔ نس سمرہ عطا بن پروردگارن عقل، علم تہ دانشمدی ہیہ کور نس یو شمشیر و  
 اندرہ **وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ** کیاہ یہ چھا کا نہ نعمتھاہ سمیک ژہ یہ پیٹھہ اچیان  
 ہٹھو کہ تھاوان کہہ مین قوم بنی اسرائیل ہنودھن ژہ پٹن غلام۔ تم تھاو تھکھ ژہ ہڈس ڈنس تہ ظلمس  
 اندر۔ جہدین لو کٹین لو کٹھ ماران۔ تمی سو کھ ترودھس یو صندوقس منزدریاؤس اندر۔ ژہ برو تھکھ کن بلہ  
 یو پو کس ژہ کھور تھس یو توہ پتہ سحر تھم پرورش۔ امہ پرورشہ ہند اصلی وجہہ ہٹھو چون ظلم۔ امہ پرورشہ  
 ہند کیاہ ہٹھو کہ ژہ یہ پیٹھہ احسان تھاوان۔ بلہ پڑہ ہی ژہ پنہ نین ناشائستہ حرکاتن تہ کچھہ کا مین پیٹھہ نادم  
 تہ پشیمان سہدن۔ ہٹھہ خبر کا تیاہ لو کٹھ مار تھکھ ژہ کوتاہ خون ناحق کوز تھہ ژہ **قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ**  
**الْعَالَمِينَ** کتھہ ڈالتھہ دون فرعون سورت العالمین کہہ گوی۔ مسعدہ طرفہ جہہ سوزنہ آمت ہجیوہ **قَالَ**  
**رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّكُمْ مُوقِنِينَ** سو کی علیہ السلامن دوئس سوگو آسمانن تہ زمینن ہیہ  
 تمہہ سار گوی پروردگار یہ تمن منز باگ ہٹھو۔ ہر گاہ توہہ یقین کرن ہٹھوہ سلیہ ہٹھو یہ کافی پتہ رب العالمین  
 سہ **قَالَ لَيْسَ حَوْلَهُ إِلَّا السَّمْعُونَ** فرعون لوگ وندہ تمن لو کن سم نس کتھہ پک آس بہت ہجیوہ ناؤوزان  
 یہ شخص کیاہ ہٹھو میانہ سوالک جواب وناں۔ مین سوال ہٹھو کیاہ تاں، جواب ہٹھو کیاہ تاں۔ **قَالَ**  
**رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ** سو کی علیہ السلامن دوئس سو ہٹھو تھہد تہ ہیہ تھہدین مالین ہڈن ہند  
 پروردگار۔ **قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ** فرعون لوگ دہنہ پنہ نین حاشیہ نشین کن  
 طعنہ دوان کہہ یہ تھہد پیٹھہر نس توہہ کن سوزنہ آمت ہٹھو یہ ہٹھو ہنر پات موت تہ دیوانہ **قَالَ رَبُّ**

قَالَ لَیْنِ اتَّخَذْتَ الْهَاطِیْرِیُّ لَجَعَلْتَكِ مِنْ الْمَسْجُوْنِیْنَ ۝۳۱  
 قَالَ اَوْ لَوْ جِئْتُكَ بِشَیْءٍ مُّبِیْنٍ ۝۳۲ قَالَ قَاتِ بِیْ اِنْ كُنْتَ مِنَ  
 الصّٰدِقِیْنَ ۝۳۳ فَاَلْفِ عَصَاۃُ فَاِذَا هِیْ تُعْبَانُ مُّبِیْنٍ ۝۳۴ وَتَزَعَّیْدَا  
 فَاِذَا هِیْ بَیضَاۗءُ لِلنّٰظِرِیْنَ ۝۳۵ قَالَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ هٰذَا سِحْرٌ  
 عَلِیْمٌ ۝۳۶ یُرِیْدُ اَنْ یُّخْرِجَكُم مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرٍ فَاِذَا تَاْمُرُوْنَ ۝۳۷  
 قَالُوْا رَجِیْهِ وَاخَاهُ وَاَبْعَثْ فِی الْمَدٰٓئِنِ حٰشِرِیْنَ ۝۳۸ یَا تُوَكَّلِیْ

المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تقولون موسى عليه السلام دون من سواه نحو مشرق ومغرب  
 تمہ سارگوی یہ تھے در میان ہنحو پروردگار۔ ہر گاہ تو بہ عقل ہنخہ۔ تھی عقلہ سمیت ماہویہ تھے قال لہین  
 اتخذت الهاطیری ل جعلتک من المسجونین فرعون ووتھ موسی علیہ السلام ان ہر گاہ تھہ وہہ وراہی  
 بیا کہ معبوداہ شھر لوہہ من سیلہ سوزت بو تھہ قید خانس اندر۔ تمسند قید خانہ اوس سینشاہ مشکل۔ زمینس  
 منز اوس اکھ سروں ہنخہ۔ تھے منز آس ودان بحر تھے قیدس۔ حیرہ اوس سوسر تھے کھارنہ نوان قال  
 ا لو جئتک بشیء مبین موسی علیہ السلام دونس کیاہ بوئے تھہ پنہ بس بوئس پنہ عن دلیل پیش کرہ  
 توہہ تھو کہ تھہ قید خانس منز قال قات یقران کنت من الصدیقین فرعون دوہکھ ہر گاہ تھہ  
 پوزنہ ونبو اندرہ ہنحوہ کمر و سیلہ دلیل پیش قال فی عصا فاذا ہی تعبان مبین ائی تر لو کہ پنہ لورہ من  
 ہنخر۔ یکدم سہد تھے دارہ کارہ بوذا تھہ ہا۔ وتزعزعا فاذا ہی بیضا للناظرین یہہ کو ڈکھ نالہ منزہ پنہ  
 اتھہ۔ ائی آوسو بوزنہ سارنی ہنحوہ و نمین نہ نہ کہہ ان۔ لوک تھارے ہہ ثل قال للملائکہ ان هذا  
 سحر علیکم فرعون لوگ دنہ پنہ نمین حاشیہ نشین، اہل دربارن، بیٹک یہ ہنحوہ ضرور سینشاہ ماہر ساہر  
 یزید ان یخرجکم من ارضکم بسحر فاذا تامرؤن تمسند ارادہ ہنحو کہ تھہ کڈوہ یہہ پنہ وطنہ منزہ نس کیاہ  
 ہنحو تھہ مشورہ قالوا رجیہ و اخاہ و ابعث فی المدن حشرین تمود و لوہس مہلت وہ تھہ اہس یعنی موسی  
 علیہ السلام یہہ اسدس باہس۔ یہہ سس مارنس یا قید کر نس اندر نہ کر تھہ جلدی۔ تھہ سوزن پنہ نمین

سَحَارِ عَلَيْهِمْ ۖ فَجِئِمَ السَّحَرَةُ لِبَيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۖ وَقِيلَ  
 لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ۗ لَعَلَّنَا نَبِيعُ السَّحَرَةَ إِنْ  
 كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ۚ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا  
 لِنَأْتِيَنَّكَ إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۗ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ  
 الْمُقَرَّبِينَ ۗ قَالَ لَهُمُ مُوسَى الْقَوْمَا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ۗ  
 فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ  
 الْغَالِبُونَ ۗ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۗ

مملکت کین مختلف شرمن کن اک جماعتہا سم ساحرن = جادوگرن سونبرن = جمع عمرن یا ثولک یحل  
 سَحَارِ عَلَيْهِمْ تم و اتان ژد لہ ساری مملکت ساجر = جادوگر فَجِئِمَ السَّحَرَةُ لِبَيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ تو  
 پتہ آی سونبرنہ ساری جادوگر تمہ ذوبہ کس و قس پیٹہ نس مقرر کرنہ اوس آنت۔ سو گو کا جک وقت۔  
 ۱۰ محرم روز عاشور انس تمن یوم الزینہ، عید بند دوہ اوس وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ یہ آودنہ  
 مبصرہ کین لوکن فرعونہ سندہ طرفہ کیاہ خبہ = سپد یوہ جمع اتہ شمس سیت لَعَلَّنَا نَبِيعُ السَّحَرَةَ إِنْ  
 كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ نتھ اُس فیصلہ کمرت جادوگرن ہنز بیروی گزد۔ ہر گاہے غالب سپد فَلَمَّا جَاءَ  
 السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ اودہ علیہ ساجر آی تم لگ دینہ فرعونس۔ اِنَّا لِنَأْتِيَنَّكَ إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ  
 کیاہ اسہ میلیا ضرور مزدور = انعام ہر گاہ اُس غالب سپدو قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ فرعون  
 دو کچھ اکھ مزدور، یہ سپد و خبہ میانہ مقرر ہو اندرہ قَالَ لَهُمُ مُوسَى الْقَوْمَا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ حضرت موسیٰ  
 ان دوپ تمن ساجر تر لو و کیاہ بخوبہ توہ تر لوان فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا  
 لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ تو پتہ تراوہ تمو پتہ رزہ = پتہ لورہ۔ سمہ جادہ کہ اثرہ سیت سرف ہی معلوم سپدان  
 آس۔ یہ لگ دینہ فرعونہ سندہ اقبالک بخوم قسم کہ اسی چھ زورس منز۔ فتح آسہ سانی فَأَلْقَى مُوسَى

فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سِجْدِينَ<sup>۳۸</sup> قَالُوا الْمَنَابِتِ الْعَلِيِّنَ<sup>۳۹</sup> رَبِّ مُوسَى  
 وَهَارُونَ<sup>۴۰</sup> قَالَ امْنُتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنَا لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي  
 عَلَّمَ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ هَلْ أَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ  
 مِنْ خَلْفٍ وَلَا وُصَلْبَتِكُمْ أَجْصَعِينَ<sup>۴۱</sup> قَالُوا الْأَضْيِرُّنَا إِلَى  
 رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ<sup>۴۲</sup> إِنْ أَنْطَمَعُ أَنْ يُغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا لَخَطِينًا إِنْ كُنَّا أَوَّلَ  
 الْمُؤْمِنِينَ<sup>۴۳</sup> وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكَ مُتَّبَعُونَ<sup>۴۴</sup>

عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ تو پتہ ترود موسی علیہ السلامین بین عصا حکم خدا۔ اتی ہیوت تم  
 تراوان تراوانی نیجھ لاون یہ سوزوی یہ تموتیا کورنت اوس قَالِقَى السَّحْرَةَ سِجْدِينَ یہ وہجتہ پنے  
 جادوگر دہتھ سجدہ کس حاس اندر قَالُوا الْمَنَابِتِ الْعَلِيِّنَ دپنہ لنگ اسہ کمر پڑھ رب العالمینس۔  
 فرعون دوپک یہ ہتھو توہہ میونوی دنان تمودوئس رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ حضرت موسیٰ بہ حضرت  
 ہارونہ سیدس پروردگارس قَالَ امْنُتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنَا لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ  
 فرعون دوپکھ توہہ ہتھوہ پڑھ کمر مڑ حضرت موسیٰ اس میانہ حکم دنہ بردہ ہتھی۔ ہنز پاٹ یہ ہتھو تہہ  
 بوڈساجر۔ سم تہہ بہ ہتھہ نامت ہتھوہ بحر۔ وڈن سپدہ توہہ معلوم توہہ کیاہ ہوہ لَا أَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ  
 وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَا وُصَلْبَتِكُمْ أَجْصَعِينَ بوڈن تہہ اتھ بہ کھور ہجرت یعنی دہتھن اتھ بہ  
 کھور کھور۔ یہ دموہ وہ تہہ ساری پھہہ قَالُوا الْأَضْيِرُّنَا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ تموساجر دوئس اسہ ہتھونہ تہہ اندر کانہ  
 نقصان بہ ضرر إِنْ أَنْطَمَعُ أَنْ يُغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا لَخَطِينًا إِنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ اس ہتھہ ہتھک پنے بس پروردگارس ہتھہ دانہ دن إِنْ أَنْطَمَعُ أَنْ  
 يُغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا لَخَطِينًا إِنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ اس ہتھہ تھیامید تھوان کہہ اسہ کرہ مغفرت پروردگارسون،  
 سائین سارنی تھن۔ کیازہ اس ہتھہ گوڈنی پڑھ کرہ دن تھس معبود ہر تھس۔ فرعونہ سجدہ جماعتہ منزہ  
 وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكَ مُتَّبَعُونَ توپتہ سوز اسہ حکم موسیٰ علیہ السلامس کہ ہجرات  
 عیت میان بندہ ہتھہ یعنی بنی اسرائیل۔ ہنز پاٹ توہہ یہ پتہ وورنہ فَلَرَسُولٌ فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ

فَارْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشُرُومَةٌ  
 قَلِيلُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِنَّمَا لَنَا الْغَاطِطُونَ ﴿٥٥﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَازِدُونَ ﴿٥٦﴾  
 فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّتِ وَعَيْوِينَ ﴿٥٧﴾ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾ كَذَلِكَ  
 وَأُورِثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا تَرَاءَ  
 الْجَمْعُ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ  
 رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ

حاشرين تو پتہ سوز فرعون شہرین کہ گمان کن کہ جماعتہاہ لو کہ سو نہر نہ خیطرہ ہے تھے فوجس منز بحر تی  
 کرنے خیطرہ۔ زبان اوسکھہ **إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشُرُومَةٌ قَلِيلُونَ \* وَإِنَّمَا لَنَا الْغَاطِطُونَ** یہ موسیٰ علیہ السلام سوز  
 جماعت ہتھ سامن لو کن نسبت سینہاہ کم جماعتہاہ تھے ہتھہ اسیہ تک کران ڈکھ کھاران۔ **وَإِنَّا لَجَمِيعٌ  
 حَازِدُونَ** یہ ہتھہ اسی ساری سلاح سامانہ ہیرت کہ فوجاہ اللہ تعالیٰ فرماوان **فَأَخْرَجْنَاهُمْ** اسی کتھہ اسیہ  
 تم یعنی فرعون کہ ہتھہ لشکر **مِنْ جَنَّتِ وَعَيْوِينَ** کمو کمو بانو ہے تاکہ رازد منزہ **وَکُنُوزٍ وَمَقَامٍ کَرِيمٍ**  
 یہ کمو کمو خزانو منزہ یہ نفیس نفیس لویو جائو اندرہ **کَذَلِكَ** کہ گوہ **وَأُورِثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ** یہ بناؤ  
 تمن لرین جائن کہ باغن ہتھہ مالک بنی اسرائیل **فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ** چنانچہ فرعون کہ ہتھہ جماعت  
 کہ لشکر دورے یہ تمن پتہ تو پتہ وات تمن ہتھہ آفتاب کھتھہ وقتہ **فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعُ** تو پتہ ہتھہ  
 دوشون ہتھہ ان کہ اسی ہتھہ نظر یہ **قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ** ہتھہ تک موسیٰ علیہ السلام سوز  
 لو کہ اسی آئی ہتھہ اسی اندر وون کیاہ ہتھہ **قَالَ كَلَّا** موسیٰ علیہ السلام دو ہتھہ ہتھہ ہر گز نہ  
 صور ٹس اندر۔ اسی ہتھہ کن نہ تم ہر گز نہ **إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ** ہتھہ پاتہ ہتھہ سیت ہتھہ میون پروردگار  
 سوز ہاوہ سہ لہہ دریادہ اندرہ ہتھہ **فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ** اسی سوز اسیہ حکم  
 موسیٰ علیہ السلام ہتھہ لہہ لہوہ سیتہ دریادہ ہتھہ اسی ہتھہ **أَتَى لَآئِي تَمُوزِثْمَ** دریادہ **فَانْفَلَقَ فَكَانَ  
 كُلُّ فِرْقٍ كَالْعِزْوِ الْعَظِيمِ** اسی سپد دریادہ ہتھہ ہتھہ ہتھہ **أَتَى سِدِّدِ** ہتھہ اسی ہتھہ **أَتَى سِدِّدِ** ہتھہ اسی ہتھہ **أَتَى سِدِّدِ** ہتھہ اسی ہتھہ **أَتَى سِدِّدِ** ہتھہ اسی ہتھہ



فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿١٣﴾ وَاذْلِفْنَاهُمْ الْآخِرِينَ ﴿١٤﴾  
وَأَجْبِنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْبَعِينَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ أَخْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿١٦﴾  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ  
لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٨﴾ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٩﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ  
وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٠﴾ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْزِلُ لَهَا عَافِيْنَ ﴿٢١﴾  
قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٢٢﴾ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يُضُرُّونَ ﴿٢٣﴾  
قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٢٤﴾ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا

الْآخِرِينَ توپتے وائے ناداسہ بھتے تو بھئی بیا کہ جماعت یعنی فرعون = تہز لشکر  
أَجْبَعِينَ یہی ڈیت لہے نجات موسیٰ علیہ السلام = یہی ہم تم من سیت آس تم ساری کھو اُخْرَقْنَا  
الْآخِرِينَ توپتے پھا تو اسے دو ہم جماعت یعنی فرعون = تہز لشکر إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ہنر پات اتھ منز  
بھو خد لہے سند ہ قدر تک بوڈ نشان تھ پات گو غرق فرعون = تہز جماعت وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ  
آہے تمو منزہ زیادہ با ایمان وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بیشک تھند پروردگاری بھو سیشاہ رحمت  
دول، سیشاہ غالب گرفتار بھونہ کران مگر ہن دلیل = بخت پورہ کتر تھ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ یہی  
نوزہ ناویو کہ حضرم کافر حضرت ابراہیم سند قبضہ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ علیہ تمو ڈوپ پنہ  
بس ماس یہی پنہ بس تو مس یہی تھ ہجورہ تھہ پرستش کران قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْزِلُ لَهَا عَافِيْنَ تمو  
دوئس آس ہجورہ عبادت کران پو تلین ہنز توپتے ہجورہ تمہی برو تھ کتر عبادتس منز دوہ کڈ اران قَالَ هَلْ  
يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ابراہیم علیہ السلامن دو بھو کیاہ ہم ہجورہ تھند بوزان علیہ تھہ تم کینہہ منگان  
ہجورہ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يُضُرُّونَ کیاہ یہی ہجورہ تمو ہر پرستش کرئس پیٹھ کانہہ نفعاہ وائے نادان یا پرستش نہ  
کرئس پیٹھ کانہہ ضررہ وائے نادان۔ تمو دو پگ یہی تھہ ہجورہ کہ ہم کیاہ ہجورہ کینہہ بوزان۔ یا نفع = ضرر

كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿۵۸﴾ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿۵۹﴾ فَإِنَّهُمْ عَادُوْا  
 إِلَىٰ إِرَابِ الْعَالَمِينَ ﴿۶۰﴾ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿۶۱﴾ وَ  
 الَّذِي هُوَ يَطْعَمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿۶۲﴾ وَإِذَا امْرَأَتْهُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿۶۳﴾  
 وَالَّذِي يُبَيِّتُنِي ثُمَّ يُبْعِثُنِي ﴿۶۴﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي  
 خِطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿۶۵﴾ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿۶۶﴾  
 وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿۶۷﴾ وَاجْعَلْنِي مِنْ

واتقوان۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون بلکہ وہ جہدہ سے بہن مال بڈب پنھے پانھہ تمن پر ستنش  
 کران قال انتم انتم تاعبدون \* انتم وانا واکم الاقدمون ابراہیم علیہ السلامں دوکھہ تہہہ وچھوہ  
 تمن ہنز حالت بغور تمن تہہہ پر ستنش کران چھوہ بیہ تمن ہنز پر ستنش تہہہ مال بڈب کران آس۔ تم  
 ماہجہ کہہ نفع و ضررک اختیارہ وال قالہم عداؤی الی الارب العالمین بیٹک سم معبودان باطل ہجہہ  
 میانہ تہہہ باعث ضرر تہہہ نقصان۔ تہہہہ تہہہہ باعث تم باعث ضرر تہہہ نقصان۔ غرض تہہہہ عبادت نئس  
 کرہ تہہہہ تہہہہ باعث تم باعث ضرر مگر نہ عالمین ہندہ پروردگار۔ سو ہتھو پنہ نین عبادت کرہ دو نین ہندہ  
 دوست۔ تہہہہ عبادت کرن ہجہہ باعث نفع تہہہہ فائیدہ۔ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ سم نو پیدہ کوزس  
 بیہ سم ساری پیدہ کوزس سوی ہتھوہ میانین مصلحتن کن وتہہ ہوان وَالَّذِي هُوَ يَطْعَمُنِي وَيَسْقِينِ بیہ نئس  
 مہ کھیوان تہہہ چاوان ہتھوہ وَإِذَا امْرَأَتْهُ فَهُوَ يَشْفِينِ بیہ یلہ نو بہار ہوان ہتھوس سوی ہتھم ہراوان تہہہ  
 شفاہوان وَالَّذِي يُبَيِّتُنِي ثُمَّ يُبْعِثُنِي بیہ نئس مہ ہندہ دوہندہ مارہ توپتہ کریم دوبارہ بیہ زندہ قیامتگ دوہ  
 وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خِطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ بیہ ہتھہ تہہہہ مہ سیٹھاہ امید کہ سوکرہ مہ مغفرت  
 میانین گو نمن قیامتہ کہ دوہندہ ہ سم صفات دکمال خدا یہ سہہ بیان کران کران سہہ ابراہیم علیہ السلامں  
 حضورک مقامہ حاصل توپتہ ہیو ہتھہہ مناجات کرن رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ای میانہ  
 پروردگارہ عطا کر مہ کمال علم بیہ کمال عمل۔ بیہ ملنا مہ قریب کن تہہہہ نین مقامن اندر۔ نیکوکار ہندان

وَرِثَةَ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝۳۷ وَأَغْفِرْ لِي إِنَّكَ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝۳۸  
 وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝۳۹ يَوْمَ لَا يُنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝۴۰  
 إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝۴۱ وَأَزْلَفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝۴۲  
 وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَوِينَ ۝۴۳ وَقِيلَ لَهُمْ أَيُّكُمْ تَعْبُدُونَ ۝۴۴  
 مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ۝۴۵ فَكُفُّوا فِيهَا  
 هُمْ وَالْغَاوُونَ ۝۴۶ وَجُنُودُ ابْلِيسَ اجْمَعُونَ ۝۴۷ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا

سیت، عالیشان انبیاء ان سیت، واجعل لی لسان صدق فی الاخوان، یہ تھا میون ذکر خیر پہت اوہ  
 و میں اندر تھ تم میان متابعت کرن، مانی و تہ بگن۔ مہ ہت تمہ سیت زیادہ ثواب واجعل لی من ورثة  
 جنة النعيم، یہ کرمہ نعمت کین جنک ہند یو وار تو اندرہ واغفر لی لانی انہ کان من الصالحین، یہ  
 کر مغفرت مینس مایس ایماک توفیق دت کیا ز سونو چھو بیشک گر ہو اندرہ ولا تخزنی یوم یبعثون  
 یہ نہ مندہ چھاومہ قیامتہ دوہہ سمہ دوہہ ساری بنن، یہ زندہ کمرت قبر و منزہ کمنہ۔ تمہ دوہے مول میون  
 کافرن سیت دو تھہ، جہنم سوزندہ پیہ سوکھہ میانہ خطیرہ سخت بے عزتی یوم لا ینفع مال ولا بنون  
 سمہ دوہہ نہ کانہ نفع بے فائدہ دیہ نہ مال نہ نہ فر کمرز إلا من آتی اللہ بقلب سلیم، مگر فائدہ ہتہ تس  
 لیس ہتہ پیہ اللہ تعالیٰ اس برو تھہ گن اور دلاہ، نس دل، شر کہ نشہ، کفرہ نشہ، نفاقہ نشہ بے خلاف شرع  
 پیہ عقائدہ نشہ پاک آسہ وازلزت الجنة للمتقین، یہ سمہ دوہہ کھ پیہ انہ جنت پر ہیز گارن نشہ  
 وبرزت الجحیم للغویں، یہ سمہ دوہہ نہر کندنہ پیہ جہنم کمر ہن بے کافرن ہندہ خطیرہ وقیل لہم ایما  
 کتہم تعبدون \* من دون اللہ، یہ ایہ وندہ تمہن سمہ ہجورہ تم معبودان باطل سمہ ہنز تھہ پرستش کران  
 آسہ خدایس ورا ی هل یصرونکم او ینتصرون، کیاہ تم پیہ کوہ توہہ از کینہہ مدد کمر تھہ یا توہہ سیت  
 روزت یا پانس پیہ کمنہ کانہہ فائدہ او اتا و تھہ، بگن پان پیہ کمنہ بجاوت فکفوا فیہا ہم و الغاؤون تو پہت بن  
 تھہ کن تراوند تم معبودان باطل بے تم گمراہ لوکھ بے سم جہز پرستش کران آس ہار جہنم اندر و جنود

يَخْتَصِمُونَ ﴿۹۷﴾ تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۹۸﴾ اِذْ نُسُوۡبِكُمْ بِرَبِّ  
 الْعٰلَمِيْنَ ﴿۹۹﴾ وَمَا ضَلٰنَاۤ اِلَّا الْمَجْرُمُوْنَ ﴿۱۰۰﴾ فَمَا لَنَاۤ مِنْ شٰفِعِيْنَ ﴿۱۰۱﴾  
 وَلَا صٰدِقِيۡ حَيِّمٍ ﴿۱۰۲﴾ فَلَوَ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۰۳﴾  
 اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۰۴﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ  
 لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۰۵﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحٍ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۰۶﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ  
 اٰخُوهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۱۰۷﴾ اِنِّيۡ لَكُمْ رَسُوْلٌ اٰمِيْنٌ ﴿۱۰۸﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ

ابلیس جمعوں میں ہے تراوند جنمیں اندر الیہ سز ساری لشکر قالوا وھم فیہا یختصمون وہن تم  
 کافر الیہ تم ہار جنمیں اندر پتہ نین معبودان باطلن سیت آسن گفتگو تہ ہرہ ہر کران تاللہ ان کنا لہی  
 ضللی مبین قسم خدا پر پات آس آس نہ گمراہی پیچہ اذ نسوبکم رب العالمین الیہ اسہ عبادتس منز  
 پروردگار عالمیست سیت توبہ برابر تھاوان آس وما ضلنا الا المجرمون آس کمر نہ گمراہ مگر سمو بڈیو  
 بحر موسم اصلہ پات گمراہی ہمد بانی آس فما لنا من شفیعین \* ولا صدیقی حیمہ دون ہنحو نہ سائہ خطیرہ  
 کا نہ شفاعت کردہ ناہ نس اسہ موکلا وہ ہا۔ یہ نہ ہنحو اسہ کا نہ دئی دوستاہ نس سون غم کھیہ ہاشریک غم  
 سپد ہا۔ فلوان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین دون ہے اسہ یہ دنیا س گن وانس سوزہ نمن آس ہن ہو با  
 ایمانو اندرہ نوتان گو ختم ابراہیم علیہ السلام سند تقریر۔ اسہ پتہ ہنحو اللہ تعالیٰ فرماوان ان فی ذلک  
 لایۃ ہن پز پات ہنحو قبصس منز یہ ہنحو نوڈ نشانہ خدایہ سپد ہنحو رنک یہ ہنحو عبرت حق ڈھانڈہ ونین ہمدہ  
 خطیرہ وما کان اکثرہم مؤمنین یہ آس نہ تمو کہ کیو کافر و اندرہ زیادہ لوک با ایمان وان ربک  
 لہو العزیز الرحیم یہ ہنحو یقینا تمہد پروردگار سینشاہ زبردست تہ غالب۔ تمن یہک ہاسوگر قدر عذاب  
 کمر تھہ۔ سینشاہ رحمتہ دول تہ ہنحو۔ تمی ہنحو کھ نہلت ودان۔ کذبت قوم نوح المرسلین ساری پیغمبر  
 پرزانت کور انکار نوح علیہ السلام سپد قومن تہ (اکس پیغمبرس انکار کزن گو سارنی پیغمبرن انکار کزن)  
 اذ قال لھم اھوھم نوح الاتقون الیہ تمن دون بای ہنن نوح علیہ السلامن، کیاہ خبہ ہنحو ونا کھو ڈان

أَطِيعُونَ ﴿۱۰۸﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ  
 الْعَالَمِينَ ﴿۱۰۹﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۱۱۰﴾ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ  
 الْأَرْذَلُونَ ﴿۱۱۱﴾ قَالَ وَمَا عَلِمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۱۲﴾ إِنْ حِسَابُهُمْ  
 إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَو تَشْعُرُونَ ﴿۱۱۳﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۴﴾ إِنْ أَنَا  
 إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۱۱۵﴾ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنُوحُ لَتَكُونَنَّ  
 مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿۱۱۶﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَوْمِي كَذَّابُونَ ﴿۱۱۷﴾

خدا ئس اِنَّا لَنُؤْمِنُ بِكَ وَمَا نَسْأَلُكَ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنَّا اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿۱۰۸﴾ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوا ﴿۱۰۹﴾ قَالُوا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُونَ ﴿۱۱۰﴾ قَالَ وَمَا عَلِمِيْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۱۱﴾ اِنَّا اِنَّا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۱۲﴾ وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۱۳﴾ اِنَّا اِنَّا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۱۴﴾ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنُوحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ﴿۱۱۵﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ قَوْمِيْ كَذَّابُوْنَ ﴿۱۱۶﴾

خدا ئس اِنَّا لَنُؤْمِنُ بِكَ وَمَا نَسْأَلُكَ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنَّا اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿۱۰۸﴾ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوا ﴿۱۰۹﴾ قَالُوا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُونَ ﴿۱۱۰﴾ قَالَ وَمَا عَلِمِيْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۱۱﴾ اِنَّا اِنَّا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۱۲﴾ وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۱۳﴾ اِنَّا اِنَّا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۱۴﴾ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنُوحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ﴿۱۱۵﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ قَوْمِيْ كَذَّابُوْنَ ﴿۱۱۶﴾

خدا ئس اِنَّا لَنُؤْمِنُ بِكَ وَمَا نَسْأَلُكَ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنَّا اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿۱۰۸﴾ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوا ﴿۱۰۹﴾ قَالُوا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُونَ ﴿۱۱۰﴾ قَالَ وَمَا عَلِمِيْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۱۱﴾ اِنَّا اِنَّا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۱۲﴾ وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۱۳﴾ اِنَّا اِنَّا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۱۴﴾ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنُوحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ﴿۱۱۵﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ قَوْمِيْ كَذَّابُوْنَ ﴿۱۱۶﴾

خدا ئس اِنَّا لَنُؤْمِنُ بِكَ وَمَا نَسْأَلُكَ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنَّا اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿۱۰۸﴾ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوا ﴿۱۰۹﴾ قَالُوا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُونَ ﴿۱۱۰﴾ قَالَ وَمَا عَلِمِيْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۱۱﴾ اِنَّا اِنَّا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۱۲﴾ وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۱۳﴾ اِنَّا اِنَّا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۱۴﴾ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنُوحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ﴿۱۱۵﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ قَوْمِيْ كَذَّابُوْنَ ﴿۱۱۶﴾

فَأَقْرَعِبْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجْنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۸﴾  
 فَأَنْجِنَهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ ﴿۱۱۹﴾ ثُمَّ أَخْرَمْنَا بَعْدُ  
 الْبَاقِينَ ﴿۱۲۰﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۲۱﴾ وَ  
 إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۲۲﴾ كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۲۳﴾ إِذْ  
 قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۲۴﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۲۵﴾  
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۱۲۶﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي

میون قوم یثرونه میون کینه به زمانان فَأَقْرَعِبْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا نَس کر شه مه منزیه تمن منز کانه  
 فیصلاه یعنی تم کز که عذائس گرفتار وَنَجْنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تمه عذله لیه ده مه نجات به تمن  
 لوکن سم مه سیت بهجه بالیمانوا ندره فَأَنْجِنَهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ نَس کور اسم جهوس  
 ذعاءس اجابت نجات ذیت اسم کوح علیه السلاَس به تمن سم تمن سیت آس تنه تاوه اندر نوسه  
 لوکو حیوانوه جانور وسیت بمرت آس ثُمَّ أَخْرَمْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ توپته پچاوا اسم باقی ساری إِنَّ فِي  
 ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ بیشک تنه واقس منزیه بهجه بند عبرت باوجود آس نه تمو  
 مکد کیو کافر و اندره زیاده بالیمان وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بیشک تنه تو بندوی پروردگار سیخاه  
 غالب سوبیجه با تمن گرفتار کمرت نه سزاوت مگر سوبه تنه سیخاه رحیم کرده وان تمی به تنه سوبه تمن مهلت  
 دو ان كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ قوم عاذن نه کور انکار ساری تنه نبرن تم ایزه بر زانته إِذْ قَالَ لَهُمْ  
 أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ یله تمن فرموده بای بنن بود علیه السلام کیاه نجه بهجه تا کهو ژان خدائس  
 إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ بهز پاٹ بو به تنه سوبه تمن تنه نبره امانت دار فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا نَس  
 کهو ژو نجه خدائس به سحر و میان فرمانبرداری وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ بو به تنه سوبه تمن مکان توبه آمد  
 فیطره کانه مزدور یا کانه عوضه إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ میان مزدور به تنه کانه نجه رب  
 العالمین درای آتَبُونَ بِحُلِّ رَبِّكَ آيَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا كَذَّبُوا بآيَاتِهِمْ وَأَكْبَرُوا كَذَّبُوا بآيَاتِهِمْ وَأَكْبَرُوا

الْأَعْلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۲۸﴾ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيءٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿۱۲۹﴾ وَ  
 تَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلَدُونَ ﴿۱۳۰﴾ وَإِذَا ابْطِثْتُمْ بَطِثْتُمْ  
 جَبَّارِينَ ﴿۱۳۱﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۱۳۲﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا  
 تَعْلَمُونَ ﴿۱۳۳﴾ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ﴿۱۳۴﴾ وَجَدَّتْ وَعْيُونِ ﴿۱۳۵﴾ إِنِّي  
 أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۳۶﴾ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعظت  
 أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَعِظِينَ ﴿۱۳۷﴾ إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۳۸﴾ وَمَا

یادگار ای بناوان یہ ہجوہ آکھ نہ ہودہ کاماد کران سمیک نہ کانہ فائدہ ہجوہ۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ  
 تَخْلَدُونَ یہ ہجوہ جبر جبر کر ولدان حالانکہ امہ خود کم جابن ہجوہ ہاتوہہ آرام حاصل سہت، زن توہہ  
 ہجوہ دنیا کی اندر ہمیشہ ہجوہ روزن وَإِذَا ابْطِثْتُمْ بَطِثْتُمْ جَبَّارِينَ یہ طہ توہہ کانہہ پیٹھ اتھہ تراوان  
 ہجوہ میلہ ہجون سوزمان ظالمانہ نہ جابرانہ، چونکہ شرک نہ ہجوہ اخلاق ہجوہ خدانس ناپسند۔ سمو  
 چیز وسیت سہڈ یو تہہ عذائس گرفتار فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا نَس کھو تھو خدانس یہ ماہو میون، کیاہزہ  
 بو ہجوہ نہند ہجوہ۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ یہ کھو تھو نَس خدانس سم توہہ مدد کورہ تمہو  
 چیز وسیت سم تہہ زانان ہجوہ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَدَّتْ وَعْيُونِ مدد کورنہہ چارپاء وسیت،  
 اولاد وسیت یہ ہاتھ نہ ناگہ رادوسیت۔ نعتہ عطا کردہ ان نَس آسہ ہجوہ فرماہر داری کران تہہ میں  
 کھن گروہ نہ مخالفت کران إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مہ ہجوہ خوف نہ اندیشہ تہہہ حقہ کہ  
 ہر گاہ تہہ ہجوہ روزنہ نافرمانیو تہہ اللہ تعالیٰ کردہ طہ گرفتار ہڈہ دُخَس عذائس سوگو قیامتک دودہ قَالُوا  
 سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعظت أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَعِظِينَ تمہولو کو دوپ نَس جواب آسہ نیشہ ہجوہ دوشوے تہہ برابر۔  
 تھو عظ پرتہ پامتہ پرتہ۔ اُس روزنہ پنہ نیو کامیو تہہ ہجوہ إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ یہ وعظ و نصیحت  
 سہر تہہ کھو تھو ہجون۔ یہ ہجوہ مگر ہر دشمن کو کن ہند عادت۔ پرتھہ دُخَس منز آی کو کہ نیو تک دعوائے  
 دتھہ تہہ تہہ دنان۔ تھہ ہجوہ آسہ عذائس کھو تھو ہوان وَمَا هُنَّ بِمُعَذِّبِينَ آسہ لیہ نہ ہرگز عذاب

فَعَنُّ بِعَدْبَيْنِ ۙ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكَنَّهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَةً ۙ وَ  
 مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۙ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۙ  
 كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ۙ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ ضَمِيمُ الْاِسْتَقُونَ ۙ  
 إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۙ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۙ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ  
 مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۙ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هُمْ بِأَشِدِّ  
 إِيمَانٍ ۙ فِي جَدَّتِ وَعُيُونٌ ۙ وَزُرُوعٌ وَخَلٌّ طَلَعُهَا هَضِيمٌ ۙ  
 وَتَنْجُوتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتَا فَرِهِينَ ۙ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۙ

کرنہ کیلئے ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكَنَّهُمْ ہمیں زون تمہو سوں یعنی یہود علیہ السلام اپنی زیور۔ اودہ کال اسمہ تمہ لو کہ  
 عذاب صرصرہ سیت۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَةً وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ بیشک آتھہ معاہلس منز ہتھہ  
 بڈ عبرت کہ احکام الہین منز نخلتک انجام کیاہ ہتھو آسان۔ باوجود آن آس نہ مکہ کیو کافر و آندرہ زیادہ  
 ایمان نہ دن وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ہتھو پز پات تھندوی پروردگار سیمشاہ غالب سوبیہ ہاتھ  
 عذابس گرفتار تھہ۔ مگر سوبہ ہتھو سیمشاہ تم کہ دن۔ تمی ہتھتھ نہلت روان کَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ  
 قوم ثمودن ہ زان ہتھہر اپڈیر إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ ضَمِيمُ الْاِسْتَقُونَ یلہ تم دن ہای ہنن صالح علیہ  
 السلامن کونہ ہتھو کھوژان خدائس إِنْ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ہتھ پات بو ہتھوس تھہد امانتدار ہتھہر  
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ہمیں کھوژو خدائس بیہ مانو میون وعظ و نصیحت وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ  
 بو ہتھوس نہ توہہر مکان وعظ و نصیحت کرنس پتھہ کانسہ مزدوریاہ ہ ہوشاہ۔ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ  
 میان مزدور ہ عوض ہتھونہ کانسہ پتھہ ہتھہ رب العالمینس درائے۔ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هُمْ بِأَشِدِّ إِيمَانٍ کیاہ تھہ ایوہ  
 تراونہ دنیاء کیس چیزان اندر بے فکر فی جَدَّتِ وَعُيُونٌ یعنی باغمن ہ تاکہ رازان منز وَزُرُوعٌ وَخَلٌّ  
 طَلَعُهَا هَضِيمٌ ہتھہ زراعتس ہ خضر باغمن منز سمن ہتھہ میوہ ہتھو لطیف۔ وَتَنْجُوتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتَا



وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿۱۵۱﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ  
لَا يُصْلِحُونَ ﴿۱۵۲﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿۱۵۳﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ  
مِثْلُنَا فَأْتِ بآيَاتٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۵۴﴾ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ  
لَهَا شَرِبٌ وَلَكُمْ شَرِبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ ﴿۱۵۵﴾ وَلَا تَسْتَوْهَابِوْهُ فَيَأْخُذَكُمْ  
عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ ﴿۱۵۶﴾ فَعَقَرُوْهَا فَاصْبِرُوا لِمِئِن قَاخَذَهُمْ

فِرہین یہ ہجوہ کھن کھن کو ہن منزہہ گرہ ہتلوان، خوش پانہ، تمہکان تمہکان۔ توہہ ہجوہ خبر ہوئے  
حال روزہ ہمیشہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ نہیں کھوڑو خدا نہیں یہ مانو میون وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ  
یہ نہ یوزو تم کو کن ہنزہ کھہ ہم نافرمانی اندر حدہ ڈلت چہہ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ  
ہم زمینس پیٹہ جابای ہجہہ کران ہنہ قسمہ اصلاح ہجہہ کران قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ تمو کافرو  
دو نہیں اسہ ہجوہ تران فقہرہ ژہ ہجوہ جود کرنے آنت۔ سمہ سیت عقلہ اندر فتور ہجوہ آنت۔ پیغمبری ہند  
دعوائے ہجوہ کہ کران مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ژہ ہجوہ کہ نہ مگر اسی ہیا کہ انسانہ۔ انسان چھا پیغمبر آسان  
قَاتِ بآيَاتٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ اودہ ہاوتہ اسہ کاہہ ہشاہہ ہجوہ کھہ ژہ یوزو نہ ونیو اندرہ قَالَ هَذِهِ  
نَاقَةٌ لَهَا شَرِبٌ وَلَكُمْ شَرِبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ صالح علیہ السلامن دو ہجہہ یہ دو تین یوسہ ہنزہ خواہہہ مطابق  
میائہ دعاء سیت خدائن اکہ پلہ منزہ پیدہ کمر۔ یہ ہجوہ میائس پیغمبر آسس پیٹہ بوڈ نشانہ نہ دلیل۔  
اسندین حقوقن ہند کمر زہ خیال۔ اسیدہ خیطرہ ہجہہ اکہ دوہہ تریش چھنج وارہ۔ بیہ گنیہ تہندین جانورن  
ہندہ تریش چھنج وارہ۔ بیہ دوہہ وَلَا تَسْتَوْهَابِوْهُ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ یہ گودہنہ تہند کتہ قسمک  
تکلیف واتانہ خیطرہ کس اتہ نہ لاگن۔ ہر گاہہ کورودہ توہہ ہیلہہ ژنہ توہہ اکہ ہڈہ دہک عذاب۔ تمونہ  
کور تہندہ رسائک تصدیق نہ کوز کہ اس ووتہہ ہند کانسہ رعایت فَعَقَرُوْهَا بلكہ مار تموسو ووتین نکہ  
نار ژہجہ۔ توہتہ سپر تمن آثار عذاب ظاہر فَاصْبِرُوا لِمِئِن قَاخَذَهُمْ تم وچہت سپر تم نام نہ پشیمان۔  
فَاخَذَهُمُ الْعَذَابُ تمہ پتہ رٹ تم عذائن سمیک تمن وعدہ تھاونہ لوس آنت۔ إِنْ فِي ذَلِكَ لآيَةٌ

الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۵۹﴾  
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۶۰﴾ كَذَبَتْ قَوْمٌ لُوطَ النَّبِيِّ  
 إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۶۱﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۶۲﴾  
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ  
 إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶۳﴾ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶۴﴾ وَ  
 تَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَكُمْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿۱۶۵﴾  
 قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿۱۶۶﴾ قَالَ إِنِّي

پزیرا پناہ بخشید و اقدس منزلیہ بخشید بد عبرت و ماکان اکثرہم مؤمنین باوجود آن اُون نہ ایمان مکہ کیو  
 اکثر لوگو و لَئِن رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ پزیرا پناہ بخشید پروردگار بخوش سیماہ غالب۔ سوئی بخشید  
 ہاتھ ساری کرہ ہا خدائس گرفتار۔ سو بخوش سیماہ رحمتہ اول تمہ سببہ دژان تمن نہمت کذبت قوم  
 لوط النبیین قوم لوطین بزبان پیغمبر آیزیر۔ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ بلہ تمن دوط  
 بنی بای لوط علیہ السلام کیاہ خبہ بخوش ہا خدائس کھوژان إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ بیشک بو بخوش خبہ  
 امانتار پیغمبر۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا نَس کھوژد خبہ خدائس بیہ کھوژد خبہ میان اطاعت  
 فرمانبرداری۔ میانہ ہدایا تو موجب ہو و مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ بو بخوشونہ مکان توہہ امہ و عظ و  
 نصیحتہ خبہ کانسہ مزدور بلن آجری إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ میان مزدور بخبہ ملہ کانسہ رب العالمین  
 وراہ۔ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ کیاہ خبہ بخوشہ ساری دنیا منزہ مردن کھہ یت ہن شہوت پورہ  
 کران و تَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا بیہ چھو کھہ خبہ پتہ زمانہ سمہ خبہ پروردگارن خبہ خبہ  
 پیدہ گرہ مژہ بخبہ نظر انداز کران بل انہم قوم عادون خبہ بخوشہ و اقلی حد انسانیتہ نشہ دلہ ان قوماہ قَالُوا

لِعِبَادِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴿۱۳۸﴾ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۹﴾ فَجَبَّيْنَاهُ وَ  
 أَهْلَهُ أَجْبَعِينَ ﴿۱۴۰﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ ﴿۱۴۱﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ﴿۱۴۲﴾  
 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَسَاءً مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿۱۴۳﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً  
 وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۴۴﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۴۵﴾  
 كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۴۶﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ شُعَيْبٌ يَا  
 تَتَّقُونَ ﴿۱۴۷﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۴۸﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا

لَيْنَ كَرْتَنَتِهِ يَلُوطُ الْكَافِرِينَ مِنَ الْمُفْرَجِينَ یہ لکس دہنہ تم لو کہ اے لوط ہر گاہ نے ژہ ہتھ روز کہ اسہ  
 نصیحت کرنہ لٹہ تیلہ کیہ ژہ ضرور سمہ شرہ منزہ نیر کڈنہ قَالَ لوط علیہ السلام دو بکھ نو ہتھوس نہ  
 تہنژہ سمہ دھمکی سبہ تو بہ نصیحت کرنہ لٹہ پتہ روزہ ان کیا ژہ اِنِّي لِعِبَادِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ بو ہتھوس ضرور  
 تہنژہ سمہ پچھ کامہ ہند سخت دشمن۔ مہ ہتھو خطرہ خبر تھہ بلا یہ گو حو تہہ گرفتار۔ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي وَمَا  
 يَعْمَلُونَ ای میانہ پروردگار سمہ تہ میانین خاص متعلقین وہ نجات تمہہ پچھ کامہ ہندہ سزاو لٹہ نو سمہ  
 یم کرن۔ فَجَبَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْبَعِينَ \* إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ نَس دیت اُسہ نجات لوط تہنہ برس یہ تہمدین  
 خاص متعلقین ساری اکس جہہ زمانہ ور ای نو سمہ آتہ روز روزان والین منز۔ یعنی لوط علیہ السلام سزا آشین  
 ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ تو پتہ گال اُسہ ہاتی ساری وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا یہ تراوہ اسہ تمہن پیٹھہ تہہ زود کہ  
 پاتھہ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ نَس کوتاہ پچھ لوس تمہن لو کہ کن ہند زود تمہن گوڑہ خدلیہ سہدہ غذا ہک نیم  
 کرنہ آیو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ہنژ پاتہ اتھہ واقس منزہ ہتھہ بڈ عبرت وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ  
 باوجود آل اون نہ ایمان مکہ کیو اکثر کافر و وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ یہ ہتھو ہنژ پاتہ تہمدوی  
 پروردگار سینہاہ زور آور۔ سو یہ پچھ ہا تمہن ساری گرفتار غذا ب کمرت۔ سو ہتھو سینہاہ رحمتہ وول تمہہ  
 موکھہ ڈژ تھہ نہمت۔ كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ایزان انیکہ والیوہ تہنہبر إِذْ قَالَ لَهُمْ  
 شُعَيْبٌ يَا تَتَّقُونَ علیہ تمہن ڈو پ شعیب علیہ السلام تہہ ہتھوہ نا خدا نَس کھوژان اِنِّي لَكُمْ

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۸۰﴾  
 أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿۱۸۱﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ  
 الْمُسْتَقِيمِ ﴿۱۸۲﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ  
 مُفْسِدِينَ ﴿۱۸۳﴾ وَأَنْتُمْ الَّذِينَ خَلَقْتُمْ وَالْحِيَلَةَ الْأُولَىٰ ﴿۱۸۴﴾  
 قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿۱۸۵﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَ  
 إِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿۱۸۶﴾ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ  
 إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۸۷﴾ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۸۸﴾ فَكَذَّبُوهُ

رَسُولَ آيَاتٍ بِحُجُوبٍ بوجھوں سے ہمہ الامتداد بے غیر قائموا اللہ واطیعونہ جس کھوڑو خدا جس سے مانو  
 میوں وعظ و نصیحت وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ۔ جو بچھو نہ مکان توہمہ آتھہ پیٹھہ کاسہ مژوریاہ تہ ہذا لاه  
 إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ میان مژور ہتھہ کاسہ منہ رب العالمین وراہی اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا  
 تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ جو بچھو توہمہ ومان تہمہ آہو ہور مینان۔ ہرگز مہ آہو لوکن بچھون مینتھہ  
 نقصان و اتانوان وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ مہ آہو رت پانھن تکرہ مہیت ٹولان۔ ڈنچہ  
 منہ آہو ماووان۔ ہرمانہ منہ آہو بچھن تھوان وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ مہ آہو لوکن ہندین چیزان  
 منز کی کران وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ مہ منہ آہو تھان ملکس متزقتہ تہ فساد وَأَنْتُمْ الَّذِينَ  
 خَلَقْتُمْ وَالْحِيَلَةَ الْأُولَىٰ مہ آہو کھوڑان جس خدا جس سے ہم تہ پیدہ کردہ مہ تم ساری لو کہ ہم  
 توہمہ برو تھہ آس قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ تم لو کو دو بکس ای شعیب تہ پیٹھہ بچھو بوڈ مجود کرنہ  
 آمت۔ مہ مہ مہیت چانہ عکبہ بچھو تھور آمت تھی بچھو کہ کران بو تھک و علاے۔ تہ یہ کیاہ خصوصیت پختہ  
 سانہ خوتہ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ تہ بچھو کہ اسی ہنہ اکھ انسانہ آس بچھتہ  
 تہ زمانان ضرور اپڑونہ دیواندرہ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ جس تر لوہ ہاوتہ

فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۸۹﴾  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۹۰﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ  
 لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۹۱﴾ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۹۲﴾ نَزَلَ بِهِ  
 الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿۱۹۳﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿۱۹۴﴾ لِبِلْسَانٍ  
 عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿۱۹۵﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۹۶﴾ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ  
 يَأْتِيَهُمْ بَأْسُهُمْ فَيُجْرَبُوا كَمَا أُنزِلُ ﴿۱۹۷﴾ لَوْ أَنزَلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿۱۹۸﴾

اسم پیشہ آسان آگہ بخلاہ، جھوٹے ژہ پوزونہ و نیو آندروہ۔ اسم سیدہ معلوم کہ واقعی جھوٹو کہ ژہ پنہیر۔ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا نَعْمُونَ حضرت شمعون دوپکھ میانس پروردگار س جھوٹو خیر تہمن سارنی کامین ہنز لکلاؤہ فَاخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظُّلَّةِ نھس طہر تھو حضرت شعیب علیہ السلام بہ زون اپز پورادہ ر س تم سائبانہ کہ ڈوہک عذابین۔ ابرس اکس تل آئی ڈلنہ تھی منزہ پو تھن پیٹھہ نازک رُود تھی سیت ڈو تم ساری إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ یہ اوس اسم بڑہ ڈہک عذابہ تھن پیٹھہ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً ہنز پاب اتھ منز جھ عبرت وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ باوجود آں کرنہ مکہ کیوا کثر لو کو پڑھہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بیشک جھو تھند پروردگار سیٹھاہ غالب۔ سوئی پڑھہ ہا تھن مہمہ کین لو کن بہ گاہا۔ سو جھو سیٹھاہ رحمتہ دول۔ تھی ڈر کھ مہلت وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ جھو بیشک یہ قرآن مجید پروردگار عالیہ سیدہ طرفہ نازل کرنہ آنت نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ لُو ہے ہتھہ دو تھہ امانتدار سلکھاہ اکھ سائہ کھمہ عَلٰی قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ تو پتہ ترودن تھم س دس پیٹھہ جھو توبہ سید لُو ہہیم کرہ و نیو آندروہ پلسان عَرَبِيٍّ مُبِينٍ لُو ہے قرآن مجید جھو صاف عربی زیوہ فصیح و بلیغ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ بیشک یہ جھو آنت اسم قرآن مجید کہ مذکرہ کرنہ بو ٹھمن کتابن اندر اَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُهُمْ فَيُجْرَبُوا كَمَا أُنزِلُ کیاہ تھمہہ غیطرہ جھن پتہ تھہ لُو ڈر لغانہ بہ بد دلیل کہ زانان جھہ اتھہ قرآن مجیدس یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیلن ہمد عالم لَوْ أَنزَلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ \* فَتَرَاهُ

فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿۳۱﴾ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ  
 الْمُجْرِمِينَ ﴿۳۲﴾ لِيُؤْمِنُوا بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿۳۳﴾ فَيَأْتِيهِمْ  
 بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۳۴﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿۳۵﴾  
 أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿۳۶﴾ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿۳۷﴾ ثُمَّ  
 جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿۳۸﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَسْتَعُونُ ﴿۳۹﴾  
 وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ﴿۴۰﴾ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا

حکیموں کا انوارِ مؤمنین یہ ہر گاہ نازل کر رہا ہوں اس پر قرآن مجید کا نسخہ عجمی شخص سے پیشہ سوی گیا۔  
 تم نے پیشہ بردار آسمان سے کہ تم نے ہم کو کہ ایمان بخداہ ہو کہ۔ کَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ  
 الْمُجْرِمِينَ تجھے پات ہو جو اسے انکار پکے نوہمت تا فرمان ہندین دکن اندر لِيُؤْمِنُوا بِهِ حَتَّىٰ  
 يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ تم کرن نہ پڑھ تھے قرآن مجید سے یوتان نہ ڈیشن کڈر عذاب مر تکہ وقت یا عالم  
 برزخس منزیا آخرتس اندر فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ سوی عذاب وکھ واجتہ ہتھ نہ مہ۔ تم  
 خرہ نہ فخری یہ عذاب تہ آوتہ کپار آتہ۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ تمہر ساتہ ڈپن کیاہ آسہ پتہ  
 تا مہلتہاہ دنہ۔ مگر تمہر ساتہ نہ آسہ وقت مہلتک نہ قول ایمانک أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ کیاہ تم  
 چھاسانس عذابس جلد تر حانڈان سمیک مطلب ہجو انکار کرن اَقْرَبَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ \* ﴿۳۷﴾  
 جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ثری دنہ آکی بوزونہ ہر گاہ آس تم مہلت وت فائدہ ٹکلاو کہ وار تمہن در تمہن تہ تو  
 پتہ دلہ تم سو عذاب سمیک تمہن وعدہ تھاونہ لوس یوان مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَسْتَعُونُ کیاہ نفع دیہ تمہن  
 کیون در تمہن ہند فائدہ ٹکلاون۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ یہ مکر نہ آسہ تہ شہر ک لوک  
 ہلاک۔ مگر گوڈہ آئے تمہن نفعہ بیم کرنہ غیطرہ ہتھہر۔ یلہ نہ تمومون آدہ آو تمہن عذاب سوزنہ ذِکْرَى  
 وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ تمہن لوکن تر تمہن پاونہ غیطرہ۔ آس آس نہ کانسہ نسبت ظلم کرہ دن وَمَا تَنْزِيلُ الْكِتَابِ  
 مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَنْزِلُ فِيهَا إِلَّا الْقُرْآنُ مُنذِرٌ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ یہ سپد نہ یہ قرآن مجید ہتھ نازل شیطان ہم کابن نفعہ یوان

ظَلِيمِينَ ﴿۲۰۹﴾ وَمَا تَذَكَّرْتُ بِهِ الشَّيْطَانُ ﴿۲۱۰﴾ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا  
 يَسْتَطِيعُونَ ﴿۲۱۱﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُولُونَ ﴿۲۱۲﴾ فَلَا تَدْعُ مَعَ  
 اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ ﴿۲۱۳﴾ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ  
 الْأَقْرَبِينَ ﴿۲۱۴﴾ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۱۵﴾  
 فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بِرَبِّي لَمُتَعَمِّلُونَ ﴿۲۱۶﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ  
 الرَّحِيمِ ﴿۲۱۷﴾ الَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ ﴿۲۱۸﴾ وَتَقْلُبُكَ فِي السُّجُودِ ﴿۲۱۹﴾

جھنم پہلے تمہیں کہ یہ کتاب جتنی کیا جان کیا ہے یہ کتاب جھنم پہلے پینچہ بون تان ہدایت۔ شیطان جھنم پہلے  
 پینچہ بون تان ضلالت و گمراہی۔ اتھہ جھنم تین سیت واسطے کا نہ۔ نہ ممکن تم یہ کہ کتاب جتنی و سیتھ  
 إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُولُونَ کیا ہے تم جھنم یہ قرآن مجید بوزنہ لشمہ دور آمت تھاون۔ تمہن جھنم لشمہ  
 ٹھور آمت کرنہ۔ لہذا جھنم یہ قرآن مجید خدایہ سندی طرفہ توبہ پینچہ نازل آمت کرنہ یارسول اللہ  
 فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ کس منہ حض کمر و عبادت تہہ معبود بر حطس  
 سیت ہرے کانسہ معبودہ سزہ۔ تمہہ سیت الیہ توبہ بہ عذاب کرنہ حال جھنم توبہ اندر جھنم نعوذ باللہ، نہ  
 شرک احتمال نہ عذابک۔ مگر ہر گاہ بفرض محال توبہ نسبت یہ حکم آؤ کرنہ تین ہنز جھنم کسے کا نہ  
 وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ای سوکھ کمر و تہہ بیم گوڑہ جھنم آشناؤن پنہ تین وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ  
 لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ یہ نمر او تہہ شفقت و مہربانی ہنز جھنم تین لوکن ہندہ خیطرہ سمو تہنز  
 متعلق کمر با ایمانو آندرہ اوہ تم آشنا آستہن یا متہ آستہن فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بِرَبِّي لَمُتَعَمِّلُونَ ہر گاہ تم  
 لوکھ سمن توبہ بیم کورہہ تہنز نافرمانی کرن اوہ تم تہہ آشنا آستہن یا متہ آستہن تہہ فرماؤ گھٹ لو جھنم  
 تہنز ہ کامہ لشمہ سیتھ ہزار۔ مہ جھنم توبہ سیت کا نہ لین دین بہ تعلق وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ  
 یہ کمر و تہہ اعتماد بہ ڈکھ کس پروردگار کس پینچہ کس سیتھ غالب بہ سیتھار حمتہ اول جھنم۔ تہہہ تکلیف  
 واتوا کس منہ کمر و کا نہ آندیشہ الَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ کس پروردگار توبہ و چھان جھنم نمازہ کس


إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۲۳﴾ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿۲۴﴾  
 تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿۲۵﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿۲۶﴾  
 وَالشُّعْرَاءُ يُتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿۲۷﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ  
 يَهِيمُونَ ﴿۲۸﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿۲۹﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

دو تھکھ وقتہ وَتَقْلَبُكَ فِي الشُّعْرَاءِ بِہ سب سے سادہ سادہ نمائندہ نماز پر وہ زمین سے تہ کھسان وسان ہجھوہ۔ رگوع و  
 مجھوہ کران ہجھوہ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بیشک ہنر پاب اللہ تعالیٰ ہجھوہ سو زوی نوزہوان، سو زوی زانہوان  
 هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ای لو کو کیا ہو کر وہ تو بہ خبر شیطان کس پیٹھ ہجھوہ وسان تَنَزَّلُ عَلَىٰ  
 كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ وارہ بوزو تم ہجھوہ وسان تمہی پیٹھ سم گوڈہ ٹیٹھہ ایزہرہ بدکار آسن يُلْقُونَ السَّمْعَ  
 وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ سم شیطان ہمدہ خبرہ وھجھوہ وقتہ کن دار تھ ہجھوہ تمہ تھہ نہ خبرہ بوزان۔ تو پتہ  
 لو کن تمہ خبرہ وھجھوہ وقتہ پتہ طرفہ دار یاہ ایزہملہ تاوت تمہ تھہ وسان۔ نبی کریمہ سندا ذات با برکات ہجھوہ  
 تمہہ زھہ مہر اتہ پاک۔ امہ سیت ہد تمہ زھہ کما تگ ہبہ دور۔ پتھ رود شاعر تیک ہبہ تھہ متعلق ہجھوہ اللہ  
 تعالیٰ فرماوان وَالشُّعْرَاءُ يُتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ بیت وزن والین ہنزہ وبتہ ہجھوہ پکان ٹی سم وبتہ ذلت  
 آسن۔ یعنی بیت نہ خیالی مضامین وزن، باتہ پانچہ یا عبار کس اندر یعنی نظم یا نژوون ہجھوہ تین لو کن ہمد کار۔  
 سم تھجھوہ ورا ای خیالی مضامین وسان آسن۔ من مضمون نہ واقعہ سیت کا نہ تعلق آسہ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ  
 فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ژہ ہجھوہ لا چھان اے مخاطب تم شاعر چھ خیالی مضامین ہمدس پر ہجھوہ میدانس  
 منز حیران۔ کھوت کھیوان مضمون تلاش کرنے خیطرہ۔ یلہ تین کا نہ مضمونہ بان ہجھوہ، چونکہ سو ہجھوہ  
 آسان اکثر خلاف واقع وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ہی سبہ ہجھوہ تم وسان تی یہ نہ تم کران ہجھوہ۔  
 مضامین قرآنیہ ہجھوہ ہائس متعلق آسن تم ساری چھ محقق۔ خیالی ہر گز ہجھوہ تم۔ لہذا نبی کریم صلی  
 اللہ علیہ وسلم شاعر وزن۔ یہ گو محض جنون نہ دیوانہ گی۔ اللہ تعالیٰ ان دژنہ سانس نبی کریم صلی اللہ  
 علیہ وسلم منظوم کلام کر کس پیٹھ قدر تھی۔ چوہہ ہمن آیات کر یمن منز آیہ شاعران ہنزہ مذمت



وَعِبِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا  
ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿۲۱۵﴾

کرنہ تھے منز آی ساری شاعر۔ چونکہ بعضی شاعرین ہند کلام جموعینِ جنت میں پور محقق۔ تمہہ مٹو کھ  
کمر اللہ تعالیٰ ان تم معنی فرمودن إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر نہ تم شاعر سمو خدا نئس پڑھ  
کمر تھے رڑہ عملہ کمرہ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا یہ کز کہ یاد معبود برھہ سہہ بکثرت وَأَنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا  
ظَلَمُوا یہی ہیوت تمو بدلہ کافرن بشرہ پنہ شو شعر وسیت تمین پیٹھ ظلم سپد نہ پتہ۔ کیا زہ کافر و اوس  
تمین رنگارنگ ظلم و اتاؤنت لہذا ہیو تک تمو تمیک بدلہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ  
برونٹھ مکن زانن ظالم سمو خدا لہ سہہ نہ پیغمبر خدا لہ سہہ حق یا حقوق العباد ظلم کمرت ضایع کمر کہ تھہ  
انقلابہ چہ جایہ بن تم و اتاؤنہ، مرنہ پتہ۔ سکو جای کبیرہ بار جہنم۔



## سُورَةُ التَّمِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 طَسَّ قَتَّ تَتَّكَ اَيْتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ① هُدًى وَبُشْرَى  
 لِلْمُؤْمِنِينَ ② الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ  
 هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ③ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ  
 زَيَّالَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْبَهُونَ ④ أُولَئِكَ الَّذِينَ  
 لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُونَ ⑤

طس سم جہر حروف مقطعات یمن ہند معنی زان پانہ خدا تِلْكَ اَيْتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ سم آیات  
 توہر پیٹھ نازل کرنہ آی۔ سم جہر آیات کریمہ قرآن مجید ک بہ واضح کتابہ ہند ہُدًى وَبُشْرَى  
 لِلْمُؤْمِنِينَ سم آیات جہر بوڈ ہدایت بہ بڈ بشارت باایمان ہندہ خیطرہ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ  
 وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ سم لوکن ہندہ خیطرہ سم نماز جہر برپا تھاوان یوسہ بدنی عباد توآندرہ ہند عبادت  
 جہر ہبہ سم زکوٰۃ جہر ادا کران یوسہ مالی عباد توآندرہ ہند عبادت جہر وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ہبہ  
 جہر تم آخر تک ہر یقین تھاوان نس تر یواصولوآندرہ اکھ اہم اصول جہو۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  
 بِالْآخِرَةِ زَيَّالَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْبَهُونَ بیٹک سم لوکھ پڑھہ جہنہ کران آخر تس جہزن جہہ  
 کائین دیت آمد زینت تمی جہر تم گمراہی منز بوڈ مت، حیران سپد مت۔ نہ جہر جہنہ عقائد درست نہ  
 اعمال۔ تمی جہنہ تم قرآن مجید س بہ مانان بہ پڑھہ کران۔ لہذا تمہ پانہ قرآن مجید جہو باایمان بشارت  
 ودان پانہ جہو کافران و عید بوزہ نادان اُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ سبے لوک گئے تم  
 ہندہ خیطرہ پچھہ عذاب جہو دنیا س اندر مر جہہ وقتہ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُونَ ہبہ آسن گئے

وَإِنَّكَ لَتُلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۖ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ  
 لِأَهْلِهِ إِنِّي آنستُ نَارًا سَأَلْتُكُمْ مِنْهَا فإخبروا أو آتيتكم بشهابٍ قَبَسٍ  
 لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۗ فَلَمَّا جَاءَهَا نُورٌ دِيءٌ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ  
 مَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۗ يُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ

آخر جس اندر سے زیادہ تاوان زد۔ کیا زہ تم واثن نار جہنم اندر سمہ منزہ نہ زانہ نہ نو کہ لن۔ وَإِنَّكَ  
 لَتُلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ مگر بیشک تو ہمہ زہہ ہتھو یہ قرآن مجید س سبھاہ حمہ والہس خدایہ  
 سہہ طرفہ واتاوندیوان۔ امہ نعمتہ کس سرور س اندر نہ سہہ و نہہ ہرگز ممکن۔ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي  
 آنستُ نَارًا شمس پاو و تمہہ و تک قبصہ یلہ موسیٰ علیہ السلام دوپ پنہ نس عیاس یلہ تم شہر مدینہ  
 پٹھہ والہس یوان آس تو پتہ وات کوہ طور س قریب اکس جلیہ سردی ہندہ وقت یلہ تم مصر حج ڈتھہ اتھہ  
 آس نہ یوان۔ ڈویگ واقعی مہہ و چھہ کوہ طوزہ طرفہ نازاہ اکھ زوتان۔ سَأَلْتُكُمْ مِنْهَا فإخبروا أو آتيتكم بشهابٍ  
 قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ خبہ ٹھرو۔ بوگڑھہ تو شمس۔ نو یمووہ ڈتہ ہنز کانہ خبراہ ہتھہ۔ نہہ سمووہ  
 نو نارہ رہاہ ہتھہ ٹنہ زن چھہ پیٹھہ۔ ہتھہ خبہ سچہ نہ دھنیر سمر و فَلَئِمَّا جَاءَهَا نُورٌ دِيءٌ نس یلہ تم اتھہ نارس چھہ  
 تلمہ وات، تم گنہہ خدایہ سہہ طرفہ آواز۔ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ مَنْ حَوْلَهَا یے آوازہہ سم ہتھہ نارس  
 منزہ چھہ ملا ٹیکو اندرہ تم پیٹھہ تہ اکن برکت، سم اتھہ نارس آندہ پک چھہ یعنی موسیٰ علیہ السلام تم  
 پیٹھہ نہ بوئن برکت یہ ہتھو ڈعا بطور تحیت و سلام ہتھہ پانچہ انہ دول، یانس زہہ یوان چھہ، سو ہتھو سلام  
 کران۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام لوس نہ معلوم کہ یہ نور ہتھو انوار الہی۔ تمہہ موکھہ ہیوک نہ تمو  
 تعظیم بجائت۔ اللہ تعالیٰ سہہ طرفہ سہہ جہدہ آنہہ خیطرہ سلام و ڈعا ارشاد و سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
 منزہہ نہ پاک ہتھو معبود برحق، عالین ہند رب، حدود و زہہ، مقدارہ زہہ، زنگور زہہ۔ یہ نور نس  
 خبہ و چھان چھوہ، یہ ہتھو سمو قیو و وسیت مُقَدِّمٌ لہذا چھو نہ یہ ذات باری تعالیٰ۔ يُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ  
 العزیز العظیم ای موسیٰ بو ہتھو س معبود برحق۔ نس کلام کران ہتھو بے کیف، سبھاہ عزتہ دول

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۱۰ وَالَّذِي عَصَاكَ فَلَئِمَّا رَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ  
 وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ  
 الْمُرْسَلُونَ ۱۱ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حَسَنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي  
 عَفُورٌ رَحِيمٌ ۱۲ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضًا مِّنْ  
 غَيْرِ سُوءٍ فَنِي تَسْمِعُ آيَاتِ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا  
 قَوْمًا فَاسِقِينَ ۱۳ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا

سیٹھارہمہ دول وَالَّذِي عَصَاكَ ای موسیٰ ژہ ترا وحض بن لورہ من بخر۔ سمویان سو ترا و بخر تہہ  
 بنو اثر و حاف لَمَّا رَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ آتی بلہ تہہ لورہ کن اچھہ تمو، سو و جھک حرکت کران سرفہ  
 سہ پاٹ۔ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ حضرت موسیٰ ژول تھر پھرت۔ یوت نظر نہ دژکھ نہ۔ اللہ تعالیٰ  
 ان فر موسیٰ یَمُوسَىٰ لَا تَخَفْ اے موسیٰ کھو ژمہ اسی کھری ژہ عطا بنخبری إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ  
 الْمُرْسَلُونَ خلعت بنخبر عطا سہت ہجھہ مہ بروٹھ کنہ بنخبر اٹھن چیزن، یم جہدہ نبوت و رسالت  
 دلیلہ آسن، کھو ژان۔ یعنی کھو ژان لکھ نہ۔ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حَسَنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي عَفُورٌ رَحِيمٌ  
 مگرے کانہ ہندہ دست کینہہ قصور ینہ لغزش لینہ آٹھ آسہ آس پیہ یاد سو لغزش تو پتہ کھو ژہ، تہہ جھونہ  
 کانہ مضائقہ۔ لیکن تہہ متعلق ینہ جھو یہ قاعدہ کہ اگر کانہ ہندہ طرفہ کانہ قصور لینہ ایہ تو پتہ بدلا وہ  
 سو تہہ کنہ نیکی ینہ ژہ کامہ سیت یعنی ٹناہ کھرت کرہ تو بہ بو جھوس جہدہ تو بہ قبول کران جہدہ بن کھنہن  
 معاف کران۔ کیا زہ بو جھوس سیٹھارہ مغفرت کرہ ان، سیٹھارہ تم کرہ ان۔ ای موسیٰ اتھہ عصاء کس  
 مہجز س سیت جھوسے بو بیا کھ مہجزہ ینہ ژہ عطا کران سو گو کہ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضًا مِّنْ  
 غَيْرِ سُوءٍ ژہ ترا و اتھہ بن پنہ نس ناس منز، سو نیری تورہ سفید نہ پتہ کرہ ان کنہہ قصورہ ینہ بیماری  
 و رای ننی تَسْمِعُ آيَاتِ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ سم دو شوے مہجزہ جھہ تمو نو و مہجزہ و اندرہ سم ہتھہ جہہ سوزنہ  
 یوان جھوہ فر موسیٰ ینہ جہدہ س قومس کن۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ کیا زہ تم جھہ حدہ ڈلہ و نیو لو کو

سِحْرُ مُبِينٌ ۱۳ وَجَحْدُ وَاِبِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا  
فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۱۴ وَلَقَدْ اتَيْنَا دَاوُدَ  
سُلَيْمَانَ عَلِيًّا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ عِبَادِهِ  
الْمُؤْمِنِينَ ۱۵ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا  
مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنْ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ۱۶  
وَحِثْرَ سُلَيْمَانَ جُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَمَنْ يُؤْذِعُونَ ۱۷

آندره فلما جاء انفسهم ايتمنا مبصرة اذ علموا انهم لم يبقوا من انفسهم سبت من اوجه  
مورنه آيه قالوا هذا سحر مبين وپند لگ بپه منون براه به جوداه وخذوا بها واستيقنتها  
انفسهم ظلما وعلوا به كور تموسن سامن آياتن انكار۔ حالاهه يقين آس كر ان جهديان كه آيات  
بچه واقعي خدي طرفه۔ مگر ظلمه كن به تكبره كن آينه اقرار كر ان فانظر كيف كان عاقبة  
المفسدين نس ووجه وجهه كياه آسه بچه انجام مفسدان هند۔ دنياه اس اندر سزاء غرق، آخر تس اندر  
سزاي حرق ولقد اتينا داود وسليمان عليا بجز پاش به كور آسه عطا داود عليه السلام به سليمان عليه  
السلام شريك به پادشاهي هند بود علم وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين تمو  
دوشوي ددپ شمر و شانه حمد نوين نس معبود بر نفس سم آسه فضيلت ديت پنه نيومند و اندره دار سخن پيچه  
وورث سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير و اوتينا من كل شئ جانشين سپه سليمان  
عليه السلام داود عليه السلام جهده انتقاله پته۔ به دود سليمان عليه السلام، اي كو كو اس آي بچها  
ونه كجه جانورن هنزه به آسه در اي نك پادشاهن مير سپه۔ به آد آسه عطا كرنه تموساروي چيزه د اندره سم  
هنزه ضرورت آس، مثلا فوج، لشكر، مال و دولت، آلات حرب وغيره اين هذا هو الفضل المبين  
بجز پاش به كور الله تعالى سدنون فضل وحيثر سليمان جودته من الجن والانس والطير فهم يؤذعون  
به كور لشكره جمع آيه كرنه سليمان عليه السلام سبه خيطره تنه الصخره منز آس جن، انسان به جانور سم

حَتَّىٰ إِذَا تَوَاعَىٰ وَاِذِ النَّمْلِ إِذْ قَالَ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا  
 مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطَبْتُمْ سُلَيْمَنُ وَجُودًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۸﴾  
 فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ  
 نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا  
 تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۹﴾ وَتَفَقَّدَ  
 الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدُودَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿۲۰﴾

ندبہ کانسہ پادشہس مسخر کردہ آست آس۔ تھے آس قاعدہ موجب وارہ وارہ ٹھہر اؤ ٹھہر اویو ان پکواند  
 تھے تم تہ واتن برو ٹھہن سیتہ حتیٰ إذا التواعلیٰ واذ النمل حتیٰ کہ بلکہ واژسہ لشکر کر یہ میداؤس اندر  
 قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ ھمہر یہ دُوب ہارنہ، جلد آژوپنہ نین آلمین منز لَا يَحْطَبْتُمْ  
 سُلَيْمَنُ وَجُودًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ھمہن سلیمان علیہ السلام تہ ہمز لشکر تخری اندر توبہ بلکہ اتہ مونجہ  
 گرہ۔ یہ یوز سلیمان علیہ السلام۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا تمومللا دوتھہ بیہ اوسکھ اہس رہہ ہمز ہیر  
 کتھ وند سیتہ۔ ہیر کوزکھ تجب اہس رہہ ہمدیوت لوکت جسم آبتھ لہہ قسجہ ہشماری تہ گاتہ جازک۔  
 چنانچہ ہن فوج روٹھ پتھ یوتان سارے رہہ ژلہ آلمین منز۔ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ  
 الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ سلیمان علیہ السلام سپہ احساس امہ نعمتک کہ یوزوزہ نووس اللہ  
 تعالیٰ ان رہہ ہمد کلام۔ یہ نعمت تہ امہ وراہی بیہ نعمو ژتیس پتھہ مونکھہ دُعا کہ ای میانہ پروردگارہ توفیق  
 دہمہ بوکیاڈپہ چانین نعمون ہمد شکر ہمیشہ۔ سمہ نعمو ژہمہ عطا کر تھہ ہیر میانس ماس ماجہ وَلَنْ أَعْمَلَ  
 صَالِحًا تَرْضَاهُ ہیر دم توفیق ہمیشہ رژہ عملہ کر ٹک سم پینہ ژہ راضی سپہ کھ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي  
 عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ہیر واتاومہ پتہ رحمتہ سیتہ پنہ نین نیکو کار بندن منز یعنی حضرات انبیاء ان منز  
 وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ بیہ کورمہ دوہہ معاینہ سلیمان علیہ السلام جانورن ہند تمہ ساتہ اوس سہ عمت غیر  
 حاضر۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدُودَ دوکھہ مہس چیز سپہ مانع کہ بوٹھسن نہ سہ عمت وچھان حاضر کتھہ

لَأَعَدِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَا أَذْبَحَنَّهُ أَوْلِيَاءِ تِيَّتِي بِسُلْطَنِ  
 مُبِينٍ ﴿٢١﴾ فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَّتْ بِمَا لَمْ تَحْطُ بِهِ وَ  
 جِئْتِكَ مِنْ سَيِّئَاتِنَا يَاقِينُ ﴿٢٢﴾ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ  
 وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَجَدْتُهُمْ قَوْمًا  
 يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالًا  
 فَصَدَّاهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾ أَلَا يَسْجُدُونَ لِلَّهِ  
 الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ

۲۱۔ کہم کل من الغالبین کہہ واقعی ہتھو سُو غیر حاضر لَأَعَدِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيدًا ہو کرہ نس امیر غیر  
 حاضری خطیرہ سخت عذاب (تیرہ کڈس لبنت) أَوْ لَا أَذْبَحَنَّهُ کہہ کرس کھش اَوْلِيَاءِ تِيَّتِي بِسُلْطَنِ مُبِينٍ  
 نے پیش کرہ مہر لہرہ پتہ غیر حاضری ہند مغول عذراہ تیلہ کروس ڈرگڈر فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ نس زود  
 تم اتھہ حالس منز کہہ سنی کالس کہہ آؤتہ شت۔ ہر ڈھہ نس ڈہ کیا زہ لو سٹھہ غیر حاضر بلا اجازت فَقَالَ  
 أَحَطَّتْ بِمَا لَمْ تَحْطُ بِهِ دوہن بو آس سنوی تھہ معلوم کتر تھہ یوسہ نہ توبہ معلوم سہز مڑہ تھہ۔  
 وَجِئْتِكَ مِنْ سَيِّئَاتِنَا يَاقِينُ بو آس شر سہا پٹھہ کہہ تھہتی خبراہ ہتھہ اِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ  
 سمیک تفصیل ہتھو پٹھہ پٹھہ کہہ مہر وچہہ زاناہ کہہ تمہہ شرہ کہن لوکن حکومت کران۔ وَأُوتِيَتْ مِنْ  
 كُلِّ شَيْءٍ نس ہتھو حکومتہ کیو لو از مو آندرہ سو زوی کہنہہ عطا کر نہ آنت وَكَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ہتھو س  
 تھہاہ کہہ سینہا ہڈہ بو زوی لعل و جواہر و سیت جہر تھہ وَجَدْتُهُمْ قَوْمًا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
 ہتھو وچہہ مہر سنو زاناہ ہتھو تھہ قوم آفتابس سجدہ دوہان نہہ پرستش کران خدا نس و رای وَزَيْنُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ  
 أَعْمَالًا فَصَدَّاهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ہتھو زینت و ستمت شیطانن تھزن کفر و کج  
 کامن تھن ہتھو پتہ ہتھو کامہ رڈہ بوزنہ یوان۔ تم ہتھو پتہ رمت شیطانن سبزہ و تہر لہرہ ہتھو تم ہڈہ و تہر

وَمَا تَعْلَمُونَ ۚ إِنَّهُ لَأَلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۙ  
 قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۚ إِذْ هَبَّ بِيَكْتَبِي  
 هَذَا فَالِقَهُ الْيَوْمَ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۚ قَالَتْ  
 يَا أَيُّهَا الْمَلَأُو الْأَيْمَنِ الْإِنِّي كَاتِبٌ كَرِيمٌ ۙ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ  
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۙ الْأَعْلَوُا عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ۙ  
 قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُو أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا

پہنچے پکان اَلْاِسْتَجْدُ وَالِالهُ الَّذِي يُخَوِّجُ الْعَبَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ تا ایک تم جہدہ کجہ دوران نس  
 معبود بر حقس نس سبشاہ قدرتہ دول جتو۔ پس آسمان وزمینہ کین پو شیدہ چیزن نبر کڈان جتو وَتَعْلَمُ  
 مَا تَعْلَمُونَ وَمَا تَعْلَمُونَ بہ جتو سوی زمانہ تم چیز سم جہہ دلن منز کھنان جتو ہبہ سم چیز زیود سیت نہ  
 تا نو سیت ظاہر کران جتوہ اَللَّهُ لَأَلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللہ تعالیٰ ای جتو پس ورا ای نہ  
 کانہ ہنز عبادت گوجہہہ کران نس وراے جتو نہ معبودی کانہ۔ سوی جتو عرش عظیمک مالک قَالَ  
 سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ سلیمان علیہ السلامن ڈوپ بہ توت ستہ تجس آس و جتو وان  
 ژہ ووتتہ پو ژک نہ جتو ک اپزونہ ونیواندرہ إِذْ هَبَّ بِيَكْتَبِي هَذَا فَالِقَهُ الْيَوْمَ اود ژہ گوجہہہ بیون خط ہتہ  
 سوی تراو تین نیشہ جتو تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ تو پتہ ڈل ژہ تین نیشہ لوکن ہن۔ نس وچہ ژہ تم  
 کیاہ تہہ بات کران پانہ وان قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُو الْأَيْمَنِ الْإِنِّي كَاتِبٌ كَرِيمٌ حمہ زمانہ کوسہ حمہ ملکہ پادشاہ  
 آس ڈوپ پنہ نہ قومہ کین سردارن، ای منور زلوکو، پبز پاتہ مد کن آوتراونہ مر کمرت اکھ باوقعت  
 عظیم الشان خطاہ اکھ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سوی خط جتو سلیمانہ سدہ  
 طرف۔ تہہ منز جتوہ مضمون لیجکت بسم اللہ الرحمن الرحیم الْأَعْلَوُا عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ تو پتہ جتو  
 خطک مضمون ای ہمہ سرکشی نہ سحر و جہہ لوک۔ یعنی یہ زمانہ بلقیس بہہ جہد اعیان سلطنت بہہ ساری عام  
 لوکہ، بہہ سپد و حاضر جہہ مد نیشہ، فرمانبردار بنت۔ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُو أَفْتُونِي فِي أَمْرِي وپہر لکھ ای



حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿۳۱﴾ قَالُوا نَحْنُ أَوْلُو الْقُوَّةِ وَأَوْلُو أَبَائِ شَيْبَةَ  
وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿۳۲﴾ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ  
إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَ  
كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿۳۳﴾ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنظِرَةٌ لِمَ  
يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿۳۴﴾ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَنُ قَالَ أَسْمُدُونَ بِمَالٍ ذَمِيمًا

معرز لو کوئچہ دیو مشورہ مہیجہ میانس معاملس اندر۔ میون کیاہ گومہ سلیمان علیہ السلامس سیتہ یجہ  
معاملس اندر کرن ماکنت قاطعہ امر اخی تَشْهَدُونِ بو پنجس نہ زانہ یہ عنہ معاملک فیصلہ  
کران یو تان نہ چہہ مشورس شامل آسہ قَالُوا نَحْنُ أَوْلُو الْقُوَّةِ وَأَوْلُو أَبَائِ شَيْبَةَ تمودوئس اس  
چہہ پتہ طرفہ پر تہہ وقتہ حاضر۔ ہر گاہ مقابلہ نہ جنگ کر تک تجویز آسہ تمہہ خیطرہ یہ چہہ اس تیار۔  
اس چہہ طاقتہ وال یہ سخت قویہ وال مقابلس اندر وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ مگر اختیار  
چتوئی اچہ۔ شی وچہ کیاہ گومہ جان۔ نس حکم ژہ کر کہہ آسہ اس چہہ تہہ حکمس کرنہ خیطرہ تیار  
قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً تمہہ بلجیسہ دو تہہ یہ چتو  
پوز، مگر تہہ منزہ چتو نہ کانسہ شہہ کہ پادشاہیلہ عنہ شرس منز فاتحانہ اذان چہہ تم چہہ تہہ شرس تہاہ  
کران یہ چہہ پتہ کین معرز لو کن ذیل کران، ذیل لو کن پارس آنان۔ اسے تہن سیتہ مقابلہ کور۔  
نمکن چتو تہہ گومہن آسہ پتہ غالب۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ہم لو کہ یہ کرن تی۔ لہذا لہجہ مصلحت یے کہ  
تان تھاؤ اس جنگ کرن ملوئی۔ وکینس چتو مہ بوز نہ یوان۔ کہہ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنظِرَةٌ لِمَ  
يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ میان رای چہہ داتان کہ بوسوزہ تہن نشہ کینہہ تہہ۔ تو پتہ وہ چہہ بو تمیک جواب  
کیاہ ہتہ بن تم شخصس من اچہہ اس سو ہدیہ سوزو فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَنُ قَالَ أَسْمُدُونَ بِمَالٍ ذَمِيمًا تو پتہ بلجہ  
قاصد دولت تم تہہ سیتہ سلیمان علیہ السلامس نشہ۔ سلیمان علیہ السلامن دوئس کیاہ چہہ چتو ہتہ مالہ  
سیتہ مہ مدد کرن یرحان فَمَا أَتَيْنَا اللَّهَ غَيْرَ مِمَّا نَشْكُرُ مہ چتو کج ضرورت کینہہ یہ کیا زہ مہ یہ کینو حاہ

اِنَّ لِلّٰهِ خَيْرٌ مِّمَّا اَتَيْتُمْ بِكُمْ بِلَ اَنْتُمْ يَهْدِيْتُمْ تَفْرَحُونَ ﴿۲۷﴾ اِرْجِعْ  
 اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قَبْلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا  
 اَذَلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿۲۸﴾ قَالَ يَا اَيُّهَا الْمَلِكُ اِيَّاكَ يَأْتِيَنِي بِعَرْشِهَا  
 قَبْلَ اَنْ يَأْتُوْنِي مُسْلِمِيْنَ ﴿۲۹﴾ قَالَ عِفْرِيْتُ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اَتِيكَ  
 بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ ﴿۳۰﴾

اللہ تعالیٰ ان عطا کورمت، جتو سبھاہ بہتر تمہ خوتہ یہ توہرہ ڈنٹمت، جتوہ۔ توہرہ جتوہ ڈنٹمت  
 حکومت و دوزخ لٹھی نوت، مہ جتوہ عطا کورمت نبوت و سلطنت۔ توہرہ لہرہ جتوہ ڈنٹمت لہرہ جتوہ دین ہے۔  
 بَلْ اَنْتُمْ يَهْدِيْتُمْ تَفْرَحُونَ بہرہ جتوہ توہرہ جتوہ تھہ سیت خوش (دیران جتوہ لہرہ) اُسہ لہرہ جتوہ  
 مہن چیزان اعتبار کینہہ اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ ای قاصد وانہس گوہرہ تمہی لہرہ مہو سوز کہ ہم ساری تھہ دکہ  
 پھیرت فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قَبْلَ لَهُمْ بِهَا ہر گاہ تم اُسہ لہرہ فرمانبرداری سان حاضر ہدن کہ گوجان  
 ورنہ واتو اس تم لہرہ سو لشکر ہتہ مہن سیت مقابلہ کر تک تم طاقتی آہنہ۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا اَذَلَّةً  
 وَهُمْ صَاغِرُونَ یہ کڈو کہ تم تمہ شہرہ منزہ ذلیل کمرت کہ خوار گواہت، تم قاصدن بلہ تم تھہ واپس  
 واتہ تاویہ بلان سوزوی حال پھیس لہرہ۔ سوہز سلیمان علیہ السلام سند یو کمالا تو سیت کافی متاثر، یہ  
 سپس یقین شہدہ پھمبر آسک چنانچہ ارادہ کزن سلیمان علیہ السلام لہرہ حاضر ہدنک، سلیمان علیہ  
 السلام ہد معلوم وحیہ سیت یا یہ لہرہ ذریعہ کہ سوہز رونہ تم لہرہ حاضر ہدنہ خیطرہ قَالَ  
 يَا اَيُّهَا الْمَلِكُ اِيَّاكَ يَأْتِيَنِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَأْتُوْنِي مُسْلِمِيْنَ سلیمان علیہ السلام فرمودہ نین مغز  
 کو کن اہل دربارن، توہرہ اندرہ کہہ اکھا دیہ مہ لہرہ واتہ تاوت تسہ تحت، تمہدہ فرمانبرداریت مہ  
 لہرہ واتہ بروٹھے۔ قَالَ عِفْرِيْتُ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اَتِيكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ  
 مِنْ مَّقَامِكَ بودم سو تحت توہرہ لہرہ انت، شہدہ دربارہ لہرہ و تھہ بروٹھے وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ  
 اَمِيْنٌ مہ جتوہ تمہہ تمک کافی طاقت۔ بوداتہ ہون سو توہرہ لہرہ امامتداری سان۔ سلیمان علیہ السلام دوہس۔

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ  
 أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رآه مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ  
 هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ؕ أَشْكُرَ آمُرُ الْكُفْرُ وَمَنْ  
 شَكَرْنَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبي غَنِيٌّ  
 كَرِيمٌ ﴿۱۰۰﴾ قَالَ نَكُرُوا وَالْهَاعِرُ شَهَا نَنْظُرَ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ  
 مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿۱۰۱﴾ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا

لمہ خود جلد پن گورہ سوواٹن قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اھ شخصہ اوس مس زہ آسانی  
 کتاب ہند علم اوس۔ سوگو آصفت بن نہ خیا۔ تمودوپ اس جس نس چون طاقت ہمتاوی انا آتیک  
 بہ قبل ان یرتد الیک طرفک بود اتاون سو تحت ژہ زہ اس کہجہ ٹیلٹہ اندر۔ بعضیہ فرمودہ الذی  
 عنده علم من الکتاب۔ لمہ اندرہ ہتھو مر ادپانہ سلیمان علیہ السلام۔ تموی و اتو سو تحت اس اچھ ٹیلٹہ  
 اندر پچہ روحانی طاقت سیت۔ فلما رآه مستقرا عندہ قال هذا من فضل ربی چنا پچہ بلہ تمود چھ  
 سو تحت پانس بروٹھ عنہ، شکر دپان دوکھہ یہ ہجو میانس پروردگارہ سید نوڈ فضل بہ مر بانی لیبلوونی  
 ؕ اشکروا امر الکفر نھہ سو مہ امتحان بہ آزمائش کرہ یہ آیا بود کر اتمسز شکر گزاری بہ نعوذ باللہ نو کرہ مگر ان  
 نعمت و من شکرفا نما یشکر لنفسہ یہ نھہ چھ ظاہر کہ نس شکر گزاری کرہ۔ نس ہتھونہ تمیک  
 قائدہ مگر پانس۔ اللہ تعالی اس ہتھونہ تمیک کا نہ نفع و من کفر نھہ پانس مگر ان نعمت کرہ۔ نس  
 بہ ہتھونہ تمیک نقصان پانس۔ اللہ تعالی اس ہتھونہ تمیک کا نہ نقصان فان رابی غنی کریم کیا زہ  
 میون پروردگار ہتھو بے نیاز لو کن ہبہ شکر گزاری زہ۔ سو ہتھو کریم ناشکری عطا کرہ و نمین بہ ہتھو عطا  
 کر ان سو۔ قال نکرو والہاعر شہا ن نظر ا تہتدی امر تکون من الذین لا یہتدون تمہ پتہ کور  
 سلیمان علیہ السلامن تجویر یہ اتھہ نکس تمسیرس بدلا و صورت۔ اس کر و تمسزہ عتقہ امتحان۔ اس  
 و ہتھو تمس عیا و تھہ پنن تحت پرزہ تاو نس کن۔ کہہ سو ہتھو تمو لو کو اندرہ یکن نہ کا نہ اتھہ و تھہ ہتھو یوان

عَرْشِكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَ  
 كُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿۴۲﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
 إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿۴۳﴾ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ  
 فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا قَالَتْ إِنَّهُ

بے عقلی سبب۔ فلما جاءت قيل اهلکذا عرشک تو پتہ بلکہ سبب بلقیس آئی۔ ورنہ اس نے خودی  
 چھاپیوں تحت قالت کائنہ هو دومن زن نہ سوی وحو و اوتینا العلم من قبلها و کنا مسلمین  
 یہ دومن اسے اوس یہ معجزہ وہمجنہ برو ننطی تہمیدہ بنمبر آسک تصدیق سہمت یہ آس مطیع و فرمانبردار  
 سہمت۔ بلکہ اسے قاصدہ سندہ ذریعہ تہمید کمالات معلوم سہمت آس۔ سمعہ معجزہ آس نہ چندان  
 ضرورت روز مشیہ معجزہ وہمجنہ برو ننطی تہمید تصدیق کزان و نحو دلالت کران تہمید کمال عقل و گاہ  
 جاس پیئہ۔ تمی مٹو کہ کور اللہ تعالیٰ ان پتہ تہمید س گاہ جاس تائید یہ فرمانہ سیت کہ وَصَدَّهَا  
 مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ تمہ آسا ایمان لوئمت۔ مگر سو آس پتہ رنہ ایمان اندہ لہمہ تمہ  
 چیز و سمن چیزان ہمدہ پر ستمش کر ٹک خدائس و رای عادت لوئس سہمت۔ سو عادت کیا زہ اوس  
 سہمت إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ کیا زہ سو آس کافر قومہ منزہ۔ تمہ پتہ لٹو اٹھ سکیمان علیہ  
 السلامن کہ امس بلقیسہ ہاؤ اوس معجزہ نہ شان نبوت ہاونہ پتہ چندہ سلطنتک شان نہ۔ تا ایچہ تہمجنہ سو  
 زانہ دنیا کہ اعتبارہ پن پان زانہ بوڈ۔ چنانچہ تمہ ہنوا کہ عظیم الشان شیشہ گراو۔ تہمجنہ پر تہمجنہ طرفہ لاگت  
 آمت آس شیشہ شیشہ۔ تمہ کس مجلس منز اوس اکھ تلاواہ آمت ہاونہ تہمجنہ منز اوس آب صاف۔ یہ  
 گاڑہ تراونہ آٹرہ۔ پیئہ لوس تہمجنہ تلاواہ فرس دنہ آمت صاف و شفاف شیشہ ہمد۔ ظاہرہ پات آس نہ  
 تم شیشہ نوز لے یوان۔ سو تلاواہ اوس آگنس منز۔ سمعہ پیئہ شیشہ مجلس منز اٹرنہ خطیرہ ضرور پن اوس  
 یوان قیل لہا ادخلی الصرح فلما رأتہ اوس بلقیسہ آونہ اٹھ سمعہ آھنہ منزہ تہمجنہ کمرس اندر۔  
 لٹو ہے کمرہ ما کرک ژہ پسندینہ قیام گاہہ خطیرہ۔ نس بلکہ تمہ سو آگن و چہ اندر اٹرت حسیبتہ لجة

صَرَخَ مُهْرَدٌ مِّنْ قَوَارِيرِهِ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَ  
 أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ إِلَهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۳﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى  
 ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ  
 يَخْتَصِمُونَ ﴿۳۴﴾ قَالَ يَقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ  
 الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۳۵﴾

آہنہ کس تلاوس گوس خیال یہ ماہتھو دریاواتھ آگھس منز و کشفنت عن سابقہا خمی مٹو کہہ کھار تھہ  
 ایزار تھر گرو زونہ تھو۔ گروزہ تھوین کے تھہ پاتھ آس منز وسہ خیلرہ کانسہ تھوان ہتھو۔ قَالَ  
 سلیمان علیہ السلامن دوئس یلہ تھن نظر ہہ اتھ ہینہ۔ إِنَّهُ صَرَخَ مُهْرَدٌ مِّنْ قَوَارِيرِهِ ای بلقیس یہ ہتھو  
 سو زوی محل۔ آگھن ہتھو ہتھو فرش کرنہ آمت شیشو سیت۔ تھہ سادہ سہد معلوم ہتھہ کہ ہتھہ ہتھہ ذنیوی  
 عجایب چیز ہ تھہ قسمک ہم نہ مہ از تام و ہتھمتی ہتھہ۔ چنانچہ تھہوس دس اندر سہز پر ہتھہ طریقہ  
 سلیمان علیہ السلامہ سز ہور وقت ہ عظمت پیدہ۔ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي تھہ سادہ ڈوپ تھہ  
 پروردگار مہ کور ظلم پان پانس ٹھرہ ہ ہر کہ سیت از تام وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ إِلَهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
 از ہتھس نو مسلمان سہان۔ ایمان انان سلیمان علیہ السلام سیت یعنی تھہہہ طریقہ موجب ہتھس پڑھ  
 کران تھس معبود بر ہتھس تھس عالمین ہند رب ہتھو ہتھہ کہیہ بلقیس۔ چنانچہ سلیمان علیہ  
 السلامن کور توبہ تھن سیت نکاح وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ ہنز پاتھہ  
 سوزائہ قوم تھوس کن نوی تھہ صالح علیہ السلام نوئے پیغام ہتھہ کہ ہر کہ تراوت تھر و تھہ عبادت  
 معبود بر ہتھہ سز۔ تھن پڑہ ہاساری کہ تھن ہم ایمان فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ تھس سہزہ تھہ زہ  
 ہماثر ہایمان ہ کافر تھہ آس پانہ وان ہرہ ہر ہ قضیہ کران۔ تھہہ قضیہ یلہ ہوت صالح علیہ السلامن  
 ہتھہ تھو ذیت فیصلہ ہایمان ہہرہ ہتھہ۔ کافر لگ و ہر ہمہ غذا ہک ہیم تھہ سہ کران ہتھو ہتھو عذاب  
 اوجہد قَالَ يَقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ تھو ذہیک ای لو کو تھہ کیا زہ ہتھو توبہ

قَالُوا أَظِيرُنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ ظِيرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ  
 أَنْتُمْ قَوْمٌ تَفْتَنُونَ ﴿۴۰﴾ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةٌ رَهَطٍ يُفْسِدُونَ  
 فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿۴۱﴾ قَالُوا اتَّقَاسُوا يَا اللَّهُ لَنُنَبِّئَنَّكَ وَ  
 أَهْلَهُ ثُمَّ لَنَنْقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۴۲﴾

کرنہ ہے ایمان اُنہ بروٹھ اُس رُت چیز اہ جھو، عذاب ڈھانڈان۔ اُس پیچھ چیز اہ جھو۔ توہمہ پڑو ہاکہ  
 عذابک و عید بو زت ایمان اُن ہے پڑھ کرن۔ تھہ بر عکس جھوہ جہہ عذابہ گوی در خواست کران۔ یہ  
 گو سینہا بے بد والاگن۔ لَوْلَا تَسْتَعْتِفُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اتھہ بدل کونہ جھوہ جہہ اللہ تعالیٰ  
 اُس مکر و لہہ مغفرت مکان دیو توہمہ پیٹھہ رحم ایہ کرنہ۔ عذابہ لہہ ایہ ہو مٹو ظ تھاونہ قَالُوا أَظِيرُنَا بِكَ  
 وَبِمَنْ مَعَكَ تمو ڈوپ ہس اُس جھت ڈہہ ہس ڈہہ سیت جھہ پھیل زمان کیا زہہ پیٹھہ توہمہ ہس  
 نو ذمہ ب کو ڈوہ، تھز ہس نو جماعت پیدہ سز ختہ پیٹھہ سز تو ہس منز بے اتھاقی۔ نا اتھاقی ہنزہ سمہ خرابیہ  
 جھہ تمہہ سزہ سارے ظاہر۔ لہذا جھوہ تو ہی من خرائن ہمدہ ذمہ وار قَالَ صَالِحُ عَلَيْهِ السَّلَامُ  
 فرمود کہ ظِيرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ تھمدہ نحو سگ سبب جھو اللہ تعالیٰ اُس معلوم۔ تھزہ مکر چہ ہے شریکچہ کامہ  
 جھہ اللہ تعالیٰ اُس معلوم۔ سمہ تختیہ جھہ یعنی کامن ہمدہ شامتہ توہمہ واتان۔ چنانچہ سوی نا اتھاقی جھہ  
 پیچھ ہے مذموم یوسہ ہزس ہے جس خلاف کرنہ سیت سپہہ۔ لہذا سپہہ نہ امیک الزام با ایمان و تھہ بلکہ جھو  
 امیک الزام کافرن۔ ونہ کوت و اتوہ جہہ۔ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَفْتَنُونَ بلکہ جھوہ جہہ تم لوک سم لہہ مکرہ  
 سببہ عذابس گرفتارین کرنہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةٌ رَهَطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ جھہ پاٹ  
 اُس اتھہ شہرس اندر کافرن ہنز کثرت۔ لیکن تھمدہ سر غنہ اُس اتھہ شہرس اندر نو جھا ڈسمہ ملکن  
 منز تھای کران آسہ۔ علمہ قسمہ سنبھالان آسہ نہ۔ بلکہ آس فسادی فساد کران۔ چنانچہ اکہ بھر کو زکہ  
 یہ فساد کر ٹک ارادہ قَالُوا اتَّقَاسُوا يَا اللَّهُ ونہہ لگ پانہ وان جہہ ساری مکر و قسم خدا یہ سہہ جھہ پیٹھہ  
 کہ لَنُنَبِّئَنَّكَ وَ أَهْلَهُ ثُمَّ لَنَنْقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ اُس گھو رات سیت تو پتہ گرو حملہ صالح

وَمَكْرُوا مَكْرًا وَمَكْرَنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾ فَاَنْظُرْ كَيْفَ  
 كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾ فِتْلِكَ  
 بَيِّنَةٌ خَاطِئَةٍ لِّمَا ظَلَمُوا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾  
 وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾ وَلَوْطَا اِذْ قَالَ  
 لِقَوْمِهِ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تَبْصُرُونَ ﴿٥٤﴾ اِيْتَكُمْ

میسے پیٹے۔ تھے اندر ماروں سو یہ تمہارا اہل و عیال ہے تمہارا ساری جماعت۔ تمہارے ہر گاہ تحقیقاً نوبت  
 آئے اس دن، تمہاری واپس سے تمہارے وارث، اس آس نہ شامل اس سے اس کے عیال کس مارے اندر  
 وَاَلَّذِيْنَ سَبَّحْتَ بِحَمْدِهِ وَنُوحِيَ اِلَيْهِ رُزُقُهُ وَنُوحِيَ اِلَيْهِ رُزُقُهُ وَنُوحِيَ اِلَيْهِ رُزُقُهُ  
 معاملہ دہرے تھے۔ تو پتہ درای سم کہ ہے یہ قوم کرنے خیرہ و مَكْرًا مَكْرًا وَمَكْرَنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ  
 تم آس پتہ جابہ اسے قسمک تدبیر کران۔ آس ہے آس پتہ جابہ تمہارے گالنگ تدبیر کران۔ تم روزہ کج  
 خبری۔ سو گواہی کہ تم بلکہ یہ قوم کرنے خیرہ پان آس اسے کہہ پیٹے گواہی بوڈ پلاہ ڈلے ہے پو سید  
 دینی پیٹے۔ تھے کل محو تھے سو ساری۔ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِينَ  
 جمہورین تدبیرین ہند انجام کیا ہے۔ اَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِينَ سو گواہی زہ اسے گال تمہارے جمہور قوم  
 سوزی اسے علاوہ آسانی عذاب سے فِتْلِكَ بَيِّنَةٌ خَاطِئَةٍ لِّمَا ظَلَمُوا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ  
 جابہ دچھان انہرہ ظلم یعنی کفر سے شرک کر کے سب۔ چنانچہ منگ لو کہ ہے شام گواہی و تہ اندر تمہ  
 جابہ دچھان اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ پتہ پان اتھ منز پتہ ہذ حیرت زانہ دین لو کن ہندہ  
 خیرہ وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُونَ یہ دیت اسے نجات تم لو کن سمو ایمان اؤن یہ آس  
 خدا سے کھوڑان۔ پتہ روزان شرک و کفر ہے۔ تمہارے قتل ہے سبک تمہا مشورہ کر یو۔ یہ اسے قہری  
 عذاب ہے۔ وَلَوْطَا یہ سوز اسے لوط علیہ السلام پتہ اس قوم سے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَاْتُوْنَ  
 الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تَبْصُرُونَ بلکہ تمہا دپ پتہ اس قوم سے کہ کیا ہے ہندہ پتہ پتہ کام کران۔ حال ہے

كَتَاتُونَ الرِّجَالِ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ  
 تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُو آلَ  
 لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَ  
 أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٥٧﴾ وَأَمْطَرْنَا  
 عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ ﴿٥٨﴾ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ  
 عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ مَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾

خبہ، بخوہ، وچھان، یہ، کڑھ، بچھ، کام، بچھ۔ آپتک تم کتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء کیا، خبہ  
 بخوہ، مردن، زہر، یوان، بن، شہوت، خواہش، پورہ، کرنہ، خلیطہ، زمانہ، تراوت، سمہ، تمی، خلیطہ، بخوہ، پیدہ، کرنہ  
 آثرہ، بل، انکم، قوم، تَجْهَلُونَ، بلکہ، بخوہ، خبہ، قوما، جاہل۔ خبری، بخوہ، نہ، امیک، نتیجہ، کیا، خیرہ  
 فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا، پس، اوس، نہ، تم، لوکن، ہند، جواب، کینہ، نہ، مگر، ای، زہ، ڈوپ، تم، پانہ  
 وَاِنْ كَرِهَ الْخَاجِرُونَ لَوْ طَمَّ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ، کندیون، لوط، علیہ، السلام، سند، اہل، و عیال  
 لوط، علیہ، السلام، بیتھ، چنہ، شہرہ، منزہ، کیا، زہ، تم، جھپانس، شانہ، زمان۔ علیہ، لوت، چنہ، کام، واژ، سہ، کور، تھہ  
 قَوْمٌ يَّتَطَهَّرُونَ، قومی، عذاب، نازل، فَأَنْجَيْنَاهُ وَ أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، کس، دیت، سہ، نجات  
 لوط، علیہ، السلام، یہ، تم، سب، عیال، تم، زہ، اس، زمانہ، ورا، یوسہ، سہ، از، مقرر، مگر، مژ، آس، ات  
 رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ لُوطًا كَانَ يَتَطَهَّرُ بِرُءُوسِ نِسَائِهِمْ يَوْمَ تَطَهَّرُوا، تو، پتہ، تر، و، سہ، تم، چنہ، عجیب، تم، سگ  
 زودا، ہتھ، منز، سہ، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ، کس، اوس، سینہ، بچھ، تم، بیم، کرنہ، آستین، ہند، سوز، و، قُلِ  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، وہ، حمد، خبہ، خدا، کس، نافرمان، ہند، ہلاک، گوا، ہنس، چنہ۔  
 یہ، لو، بن، سلامتی، ہمیشہ، خدایہ، سند، تم، بدن، چنہ، ہم، تم، زار، نہ، برگزیدہ، مگر، اللَّهُ خَيْرٌ  
 مَّا يُشْرِكُونَ، کیا، خدا، معبود، بر، حق۔ مسجد، احسانات، بیان، کرنہ، آئی، چھا، ہتر، کہ، تم، معبودان، باطل۔  
 سمن، تم، خدایہ، سہ، شریک، جھپ، ٹھہرا، وان۔ امیک، تفصیل، جھو، تھہ، پاٹھ، کہ، ای، لو، کو، خبہ، مگر، تو، خدایہ، سند،





وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ ۖمَعَ الْعَالِمِينَ  
 قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿۱۲﴾ أَمْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحَ بِشْرًا ابْنِ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ  
 إِنَّ اللَّهَ ۖمَعَ الْعَالِمِينَ تَعَلَّى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۱۳﴾ أَمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۗ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ  
 إِنَّ اللَّهَ ۖمَعَ الْعَالِمِينَ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۴﴾

المُضْطَّرِّ إِذَا دَعَاكَ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ۖ بے سوزات پاک ہتھو بہتر نئس بےقرار ۛ لاچارہ سبوس مھتھ نئس اجابت ہتھو کران۔ بلہ سؤئس مئگان ہتھو۔ بے نئس مئسیت ۛ نئخی ہتھو دور کران وَّيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ بے نئس توبہ ہتھو کران ز مئنس اندر صاحب تصرف ۛ جائئشن عَالَمٌ مَّعَ اللَّهِ ۖ بے نوزت و نئو تھہ اللہ تعالیٰ آس شریک عبادت آسئس لائق چھابہہ کانہ معبود (ہرگز نہ) قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ مگر سینھاد کم ہتھو توبہہ ایمک خیال ۛ سمہ تھہ یاد تھوان۔ وذن نوزد تھہہ بے کمالات تو پتہ و نئو سم معبودان باطل ہتھو عبادتئس سزوار اَمْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ بے سوزات پاک ہتھو سزوار نئس توبہہ و تھہ ہتھو ہوان نئکلی ۛ تری ہنزن کئن اندر وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحَ بِشْرًا ابْنِ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ بے نئس سوزان ہتھو و اوس پتہہ رحمت یعنی باران رحمتہ بروئٹھ خوشخبری ہتھہ۔ بے نوزت و نئو عَالَمٌ مَّعَ اللَّهِ ۖ باوجود آس بےکیائئس سیت کانہ معبوداہ، شریک ہت عبادتئس اندر۔ ہرگز نہ۔ تَعَلَّى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ بلکہ ہتھو اللہ تعالیٰ تھہہہ شریکہہ نہہہ سینھاد بالائہ تھو۔ نئس معبود برحقہ سبہہہ کمالات نوزت و نئو کہ سم معبودان باطل چھ بہتر۔ اَمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۗ بے سوزات پاک ہتھو بہتر سم ساری مخلوقات گنوذہ پیدہ سمر تو پتہہ کر کچھ سؤی دوبارہہ پیدہ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ بے نئس توبہہہ رزق ہتھو عطا کران آسماہہہ طرفہ زود تراو تھہ ۛ زبھہ طرفہ قلہ ۛ کل کھارت۔ بے نوزت و نئو عَالَمٌ مَّعَ اللَّهِ ۖ کیاہ معبود برحقہ شریک عبادت آسئس لائق چھابہہہ کانہ

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ  
 وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾ بَلِ ادْرَاكَ عِلْمُهُمْ فِي  
 الْآخِرَةِ ۗ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا ۖ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾  
 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ءَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاءُ وَنَا آيَاتًا  
 لَّهُمْ خُرُوجُونَ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاءُ نَا مِنْ

معبودان۔ ہر گاہ تم یہ نوزت وشن کہ جمید معبود ہے۔ جسے مستحق عبادت قُلْ مَا تُوَابَرُهُمْ فَالِإِن كُنْتُمْ  
 صَادِقِينَ تمہ فرمایو کہ۔ یارسول اللہ انہ میں سحر و سحر و سحر و سحر ہے۔ یہ تو زونہ دن۔ ہم کو کہ  
 قیامت وقت مضمین پائے نہ وہ سبہ قیامت انکار کران۔ جسے تم کہتے ہو۔ جو اب کہ تمہ یہ دن۔ جو غلط  
 کیا زہ یہ قیامت مسئلہ۔ جو غیبیہ جو کتھو آندہ۔ یہ ہم مخلوقات آسمان وزمینس منزہ ہے، تمہ منزہ۔ جو  
 کانہ یہ غیبیہ چہ تمہ زمان خدائس و رای۔ ہر گاہ میرے نظر سے تو میرے نظر قیامت سے۔ تو تک علم ہے شیدہ زود یہ کیا  
 کتھو ہے۔ تمام عالمس منزہ ہم مخلوق جسے تم کہتے ہو۔ میرے آندہ۔ میرے کاڑا کتھو ہے شیدہ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ  
 فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تُوہ فرمایو کہ یارسول اللہ آسمان سے زمینس منزہ ہم جسے تمہ آندہ۔ زونہ نہ کانہ  
 اکماہ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ غیب خدائس و رای وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ یہ جھنہ کو کن کینہہ سے  
 خبر کہ کزین تمہ یہ زندہ کرنے سے قبر و منزہ کتھو بَلِ ادْرَاكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ ۗ بلکہ سپہ قسم تمہ  
 علم آخرتس متعلق تو پتہ وات نہ تم کہتے ہو۔ چنانچہ تم جسے دے تمہ کتھو  
 شحہ سی منز بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ بلکہ جسے تم تمہ کتھو حقہ ان سے ناپنا۔ کیا زہ جسے پانہ انہس جھنہ و کتھو  
 در نیٹھی یوان تمہ مقدس و انہس جھنہ شوار، جسے پانہ واتن نہ تمہ مقدس وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
 ءَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاءُ وَنَا آيَاتًا لَّهُمْ خُرُوجُونَ یہ وہ پتہ کن تمہ لو کو سمو انکار کو قیامتس کیاہ اس سے  
 یہ سان مال بڈب، طہ اس میزہ سیت میزہ آسوجت، تو پتہ یہ وہ اس قبر و منزہ یہ کتھو لَقَدْ وُعِدْنَا  
 هَذَا نَحْنُ وَآبَاءُ نَا مِنْ قَبْلُ ہر پائے اسے سیت یہ سائین مالین بڈبن سیت جسے کتھو وعدہ برو کتھو

قَبْلَ إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۳۹﴾ قُلْ سِيرُوا  
 فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿۴۰﴾  
 وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿۴۱﴾  
 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۴۲﴾ قُلْ  
 عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۴۳﴾  
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا

تہ کرنے آیت، کیا زہ ساری انبیاء آئی ہوئے وعدہ کران مگر نہ سہ از تام سو وعدہ پورہ، نہ دون کا نہ کہ  
 کر آہ سو قیامت۔ لہ اندرہ ہتھ معلوم سہ ان کہ **إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ** سمہ ہتھ ہے  
 سزہ تھہ سمہ برو تھن نہ نقل کرنے یوان چہ **قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ**  
**عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ** بلہ قیامت کس امکانس پیٹھ عقلی دلیلہ تہ سمہ کس دقو عس پیٹھ نقلی دلیلہ وارہن  
 جاین تہہ آوہ بوز ناونہ توہہ پزہ نہ انکار کران۔ ورنہ نہ توہہ سوئی حال نس بین منکران بنیوت ہتھ۔ ہر گاہ  
 تہن تھہ اندر شک ہتھ تہہ فرما یو کہ یار سول اللہ ای منکر و، تہہ پھیر تو منکر قوم ہندین ملکن اندر تو پتہ  
 و پھتو تہن منکران نافرمان ہند انجام کیاہ ہتھ سہ مت، تم تہہ پاٹ ہتھ غذا بو سیت گانہ آیت ہر گاہ  
 باوجود سمو موثر نصیحتو و عظو تم تو تہہ جس سخی نفس پیٹھ کمر گنڈ تھی روزان **وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ**  
**وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ** تہہ منہ حض پو تہہ غم یار سول اللہ ہہ ہمہ شرارت چہ کامہ تم کران  
 ہتھہ تمو سیت منہ سہن تہہ دل مہارک تنگ۔ بین انبیاء ان سیت تہ ہتھ یو ہے معاملہ سہ مت  
**وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** ہہ ہتھ تم منکر مسلمان وہان، سمہ ہتھ سو عذاب  
 سمیک وعدہ تھاونہ یوان ہتھ، ہر گاہ تہہ پزہ ہتھ۔ **قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي**  
**تَسْتَعْجِلُونَ** تہہ فرما یو کہ یار سول اللہ، دیوہ جلدی دانہ توہہ نش سمہ غذا ہک اکھ حصہ سمہ جلد و اسٹک  
 تہہ مطالبہ کران ہتھ و نیک تان نس تھہ منز تا خیر سہ تہک وجہ ہتھ کہ **وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى**

يَشْكُرُونَ ﴿٤٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٤٤﴾ وَمِمَّا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الْأَلْفِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٤٥﴾ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقْضُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٤٨﴾

الثانی وَلَٰكِن أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ہمز پائٹ تہجد پروردگار ہتھو لو کن ہمدہ کتھ فضلہ اول۔ مگر اکثر لوک ہتھہ ہتھہ گذاری کران۔ عذابہ کس تاخیرس ہ تھلتس ہتھہ نغیمت زانان۔ اتھہ تھتہ کس وقس شوہ ہا تھن حق تھلڈن، حق قبول کران، ہ سپدہ ہا باعث تھمدہ نجات ابدیک۔ تھہ بدل چھہ انکار کران ہ عذابک معاملہ تھتھہ زابت تھہ منز جلدی تھتھان۔ لہذا نہ زان تھتھہ یمن تھتھہ کیا پیہ نہ تھن ستر ہی دنہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ہمز پائٹ تہجد پروردگار ہتھو پور زانان ہ سوزوی ہ تم لوک پنہ نین سکن ہ ولن منز کھتت تھوان ہتھہ ہہ ہ سوزوی ہ ستر وان ہتھہ۔ اللہ تعالیٰ اس کج خبر پور آسہہ علاوہ ہتھو ظاہری طورہ ہاضابطہ دفتران اندر درج یوان کردہ۔ جہزن کا تھن ہنزہ ہتھہ کینہہ خصوصیت وَمِمَّا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الْأَلْفِي كِتَابٍ مُّبِينٍ بلکہ ہتھو نہ کانسہ ہہ شیدہ چیزاہ آسانن ہ زمینن منز، تھس نہ درج ہتھو نہ ہتاہ اندر یعنی لوح محفوظ اندر إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقْضُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ہمز پائٹ یہ قرآن مجید ہتھو فیصلہ بیان کران بنی اسرائیلن پیٹھہ وار تھن تھن چیزن منز تھن اندر تم اختلاف کران ہتھہ وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ہتھک قرآن مجید ہتھو بالایمان ہمدہ خیطرہ خاص ہدایت ہہہ خاص رحمت۔ ہدایت ہا اعتبار طاعات و اعمال۔ رحمت ہا اعتبار ثمرات و نتائج اِتِّبَاطِ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ یلہ نہ تھو تھون عقلی ہ شرعی

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿۱۹﴾  
 إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا  
 كَانُوا مُدْبِرِينَ ﴿۲۰﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَنْ صَلَاتِهِمْ  
 إِنَّ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ يَأْتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۲۱﴾ وَ  
 إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ  
 تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿۲۲﴾

فیصلہ، بیشک وہی کرہ جہنمہ پروردگار عملی فیصلہ تین اختلاف کرہ و تین منز پنچہ حکمہ سیت قیامت  
 دؤہ۔ تمی دؤہہ سپدہ تین معلوم ہوا زکیاہ اوس سے اپز کیاہ اوس۔ سو پروردگار ہتھو غالب سے زبردست۔  
 سوزوی زانہ دن۔ اس ہش ہتھونہ ہوشیدہ کنی فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین ہس  
 ستر و تہہ توکل محس معنود بر محس پیٹہ۔ بیشک تہہ ہتھوہ محس پزس پیٹہ۔ پز زیارین ہتھو اللہ تعالی مدد سے  
 یاری کران انک لا تسمع الموتی ولا تسمع الصم الدعاء اذا کوا مدبرین بیشک تہہ ہتھو کہ  
 نہ بوزہ ناوتھ مرودہ، ہتھو ہتھو کہ نہ بوزہ ناوت ہن آلو زندہ خصوصاً علیہ تم توبہ کن فخر کمرت ڈلان آن  
 وما انت ہادی العمی عن صلاتہم ہتھو ہتھو تہہ انین سے تا پیانہ ان کمر ای ہتھو ہتھو ہتھو، و تھ  
 ہاوتھ ان تسمع الامن یؤمن یأتینا فہم مسلمون تہہ ہتھو کہ نہ بوزہ ناوت مگر تھے سم  
 سائین آیاتن پڑھ سے یقین کران آن۔ تھے لوک ہتھو سان حکم مانہ دن و اذا وقع القول  
 علیہم اخرجنا لہم دابۃ من الارض ہتھو ہتھو دابۃ قیامت لوکن پیٹہ ہاوتھہ ان آس۔ یعنی  
 قیامت وقت ہتھو نزدیک سپدہ اس کڈون جہنمہ خیطرہ عجیب جانور اہا کہ زمین منزہ تکلمہم ان الناس  
 کانو یأتینا لا یوقنون سوی جانور کرہ لوکن سیت تھہ۔ و ہتھو کافر لوک ہتھو سائین آیاتن یقین  
 کران خصوصاً تین آیاتن سم قیامت متعلق ہتھو۔ و دن واثر قیامت نزدیک۔ چنانچہ اہ علامت اوس  
 تمیک میون ظاہر سپدن۔ چنانچہ اتمہ کرن ساری تصدیق۔ پیغمبر آہتھو فرماوان، تین آس کھذیب

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ  
 بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿۸۳﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ وَقَالَ الْكَذَّابُ  
 بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا أَنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۸۴﴾  
 وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿۸۵﴾  
 الْمُرِيرُوا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسُكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۸۶﴾ وَيَوْمَ يُنْفَخُ

کران۔ دایۃ الارض طبع پیرہ اس کران تصدیق۔ مگر اسی سادہ تصدیق کر کے آسہ نہ کا نہ اعتبار و یومہ  
 نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ یہ پادو تہہ ڈٹیس کو کن سو  
 دوہ یمہ دوہہ اس پر تہہ اُمۃ منزہ اکہ اکہ جماعتہا جمع کر دن تمن کو کن ہنز ہم سائین آیاتن لہز زلن  
 آس۔ تو پتہ ین تم الگ الگ تھانہ۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ وَقَالَ الْكَذَّابُ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا  
 أَمَّا أَنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تا ایلکہ طبع تم خدائس برو تھہ کن وا تن سو ہز ڈھیک کیاہ توہہ زلیہ دو کہ میان  
 آیات اپز۔ حالہہ توہہ اوسو نہ تمن آیاتن ہند پور ظلم کینہہ ۔ تمن کن کورہ نہ توہہ تدیر۔ نہ فخر کر نہ  
 ورا ی کورہ توہہ انکار نہ تکذیب تمن آیاتن بلکہ پادو یو توہہ ڈٹیس اسی علاوہ کہ کہہ کہہ کامہ کردہ توہہ۔  
 مثلاً انبیاءن نہ با ایمان آسہ دو ان تکلیف۔ یہ آسہ مگر کین عقائدن نہ اعمالن منز ہتلا۔ نہ دستو تہہ  
 کیاہ آسہ کران خدائس نہ جہد ین آیاتن انکار کر نہ ورا ی وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا واقع سپہ  
 تمن پیٹہ عذابک حکم جہدہ ظلمہ موکھہ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ئس بیکن نہ تم تھہ کرت۔ مر نہ پتہ یہ  
 زندہ سپ نہ پتہ جہدہ نقلی دلیلن ہمدہ علاوہ عقلی دلیلہ نہ مثلاً الْمُرِيرُوا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسُكُنُوا فِيهِ  
 وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ کیاہ اچھان جھنا تم سادہ قدر تک بوڈ نشانہ کہ  
 بیشک آسہ کمر رات صحت بٹھہ لو کہ تھہ منز آرام کرن۔ یہ کمر آسہ دوہ روشن تھہ تھہ منز لو کہ کو م صحت  
 کرن راتس منز آرام کرن نہ شوگن۔ اتھہ جھو تشبیہہ موتس سیت۔ دوہلہ ڈٹسن لورہ یور کرن اتھہ

فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ  
إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ ذَخِيرِينَ ﴿۸۷﴾ وَتَرَى الْجِبَالَ  
تَحْصِبُهَا جَمِيدًا ۗ وَهِيَ تَمْزَجُ السَّحَابَ ۗ صُنِعَ اللَّهُ  
الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿۸۸﴾

ہم تو تشبیہ مرنہ پتہ یہ زندہ سپہ نرس سیت بیشک بالیمان ہمدہ خیطرہ ہتھا اتھ منزجہ جہہ دلیلہ و یومرہ  
یُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ یہ پادو لو کن  
ژ جس تمہہ ذہک ہیبت سمہہ دوہنہ پھو کہہ دنہ یہہ ہا غس منز تو پتہ گاندن تہ بانہرن۔ ہس تہ ہوش۔ روزہ  
نہ تم سارنی ہم آسمان تہ زمین اندر ہجہ۔ ملا جھو تہ انسانو اندرہ مگر نہ تم من ہند اللہ تعالیٰ یرجہ۔ تم  
روزن پنہہ ڈنچہ ہمکن تہ حواسن اندر۔ حدیث شریف منہ ہتھو، تم گئے جبریل امین میکائیل، اسرافیل  
تہ عزرائیل یہہ حاملان عرش وَكُلُّ أَتَوْهُ ذَخِيرِينَ تو پتہ ین ساری خدائس برودتھکن عاجز تہ ذلیل  
سپہت۔ دنیاءس منز ہتھو دستور کہ کھوژنہ وزہ ہتھو شخص ژلان مگر تمہہ دوہنہ یہہ نہ کاندہ اکھاہ کنہہ جاپہ  
ژلت۔ چنانچہ ہم زندہ آسن تم مرن، ہم موت آسن تم سپہن بیہوش یعنی جہنہہ روح۔ یہہ حال سپہہ  
جاندارن۔ بے جان چیزن ہند حال ہتھو فرماوان اللہ تعالیٰ امہہ پتہ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْصِبُهَا جَمِيدًا ۗ  
وَہی تَمْزَجُ السَّحَابَ یہہ ہتھو کہہ وچھان ژہ ای وہجہ ونہ گمان ہتھو کہہ کران کہہ تم کوہہ جہہ آگسی  
جاپہ بند۔ ہتھہ پانہہ تہ اتھہ حالسی پیٹہہ ماروزن ہمیشہ مگر حقیقتس منز آسن تمہہ دوہنہ تم کوہہ ابرک پانہہ آورہ  
نور پکان۔ سترک پانہہ آسن دوہنہ آست صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ اتھہ پیٹہہ گودہہ نہ کاندہ  
تجب کرن۔ کیا زہہ یہہ ہتھہ خدایہ سز کام ہم ہم ساری چیز مضبوط تہ محکم کر۔ ابتداءس منز آسن نہ کنہ  
چیزس منز مضبوطی۔ سو چیز بلہہ تم قدر تہ وال پیدہ کور آدہ کر نس مضبوطی عطا۔ ہم پرودگارن سو چیز  
پیدہ کور تو پتہ وژ نس مضبوطی سو پیچہ نس بھہ سو مضبوطی زائل کر تہ بلکہ سو چیز ی یکدم ختم کر تھہ  
إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ یہہ ہتھہ یعنی تھہ کہہ اللہ تعالیٰ اس جھہ تھنن سارنی کامن ہنز پور خبر۔



مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فِرْعَ ثَوْمِيذِ  
 اِمْنُونِ ۞ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فُكِبَتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ  
 تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ  
 الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ  
 الْمُسْلِمِينَ ۞ وَاَنْ اَتْلُو الْقُرْآنَ فَمِنْ اِهْتَدَى فَاِنَّمَا يَهْتَدَى لِنَفْسِهِ

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فِرْعَ ثَوْمِيذِ اِمْنُونِ نَسِ الْكُفَايَةِ نَسِ رِشِي نَسِي لِعَنِ اِيْمَانِ  
 بِيْتِهِ تَسْبِيْهِ خِيَطَرُهُ وَتَحْوِ تَمِيْهِ خَوْفُهُ زُتْ بَدَلِ - لِعَنِ اِيْمَانِ اِنَّ نَسِ بِيْتِهِ سَمِيْهِ مَزُوْرُهُ بِيْتُهُ سُوْ  
 مَزُوْرُهُ خَوْفُهُ بِيْتُهُ مَزُوْرُهُ بَدَلِ لِيْهِ نَسِ عَطَا كَرَمِيْهِ اَسْنِ تَمِيْهِ دَوِيْبِيْهِ خَوْفُهُ بِيْتِهِ اِنَّمَا اُمِرْتُ  
 وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فُكِبَتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ بِيْتِهِ سَمِ لُوْكَ خَدِ اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ  
 بِيْتِهِ كَنْ تَرَاوَنَ نَارِ اَنْدَرِ - وَنَدِ اَكِيْهِ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تَوِيْبِيْهِ وَتَحْوَنَ بَدَلِ يُوْا اَنْ دَنَ مَكْرِ  
 تَمِيْهِ كَامِيْنِ بِيْتِهِ نَجِيْهِ كَرَامِ اَسْوَدِ دُنْيَا اَسْ اَنْدَرِ - بِيْتِهِ وَتَحْوَنَ كَانَسِيْهِ عَذَابِ يُوْا اَنْ كَرَمِ اِنَّمَا اُمِرْتُ  
 اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ نَجِيْهِ فَرَاوِيْهِ كَيْهِ حَضِ يَارَسُوْلِ اَللّٰهِ مِيْهِ اَوْنَهُ كَانَسِيْهِ  
 كَحْمَاهُ كَرَمِ سَمِيْهِ حَكْمِهِ وِرَايِ كِيْهِ لُوْكَرِهِ عِبَادَتِ سَمِيْهِ شَهْرِهِ كَسِ مَابِيْهِ سَنَزَمِ اَتَمِهِ شَهْرِ اَسْ عَزْتِ دِيْتِ -  
 كُوْثُ اَسْ نَابُوْتَمِيْهِ يَاثِرِ عِبَادَتِ كَرَامِ - كَسِ خَدِ لِيْهِ سُنْدِ وَتَحْوِ پَرِيْتَمِهِ جِيْزَاوِ - وَنَدِ اُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ  
 الْمُسْلِمِينَ بِيْتِهِ اَوْمِيْهِ حَكْمِ كَرَمِ كِيْهِ لُوْكَرِهِ فَرَاوِيْهِ دَارُوْا اَنْدَرِ وَنَدِ اَتْلُو الْقُرْآنَ بِيْتِهِ اَوْمِيْهِ بِيْتِهِ حَكْمِ كَرَمِ  
 كِيْهِ يُوْزُهُ نَادُوْهُ نَجِيْهِ لُوْكَرِ اَنْ مَجِيْدِ لِعَنِ يُوْكَرُوْهُ تَوِيْبِيْهِ تَبْلِيْغِ اَدْكَامِ نَسِ نَبُوْتِ اَسْ لَازِمِ وَتَحْوِ فَمِنْ اِهْتَدَى  
 وَنَدِ اَكِيْهِ لِنَفْسِهِ وَمَنْ هَلْ قَتَلَ اِنَّمَا اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ نَسِ نَسِ اَنْ مَجِيْدِ لُوْزْتِ مِيَاوِيْهِ تَهْلِيْفِ سِيْتِ  
 وَتَحْوِ بِيْتِهِ سُوْجِيْهِ پَنَدِ نِيْ پَانَهُ كِيْهِ قَايِدِهِ خِيَطَرِهِ - لِعَنِ نَسِ وَتَحْوِ تَمِيْكَ فَاوْدَهُ پَانَسِ - بِيْتِهِ نَسِ دِيْتِهِ رِشِيْهِ ذَالِيْهِ نَسِ  
 وَتَحْوِ تَمِيْكَ ضَرَرِ پَانَسِ - نَجِيْهِ فَرَاوِيْهِ كِيْهِ لُوْكَرِهِ وَتَحْوِ نَسِ مَكْرِ بِيْمِ كَرَمِ دُنْيُوْا اَنْدَرِ - اَكِيْهِ بِيْمِ كَرَمِ وَنَادِ، لِعَنِ حَكْمِ يُوْزُهُ  
 نَادِ وَنَدِ بِيْتِهِ وَنَادِ وَنَدِ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُّرِ كَرَامِيْهِ مَعْرُوْفُوْتَمَاهَا بِيْتِهِ دِيْ سَارِيْ تَعْرِيْفِ شُوْبِيْنِ خَدِ اِلْيَسِيْ

وَمَنْ ضَلَّ فَكُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿۹۲﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ  
سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۹۳﴾

نیت۔ مہر یہ کنیو حادہ منیر اوس سے دول مہر تھہ۔ اللہ تعالیٰ ہادہ توہرہ جن نشانہ پانے یعنی قیامتک واقعات  
نہس خبرہ توہرہ پانے خبرہ قصہ کیاہ جتوہ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ یہہ جتوہ ہرگز تہہہ پروردگار بے  
خبر تہوہ کامیو تہہ یہہ تہہ کران تہہوہ۔ لہذا اوہرہ سُو با ایمان پنہ نین عملن ہند رت جزاء۔ کافرن سے سکران  
دیہہ پیچھہ کامن ہند پور سزاہ۔



## سُورَةُ الْقَصَصِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 طسّم ۱ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۲ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ  
 مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۳ إِنَّ فِرْعَوْنَ  
 عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً  
 مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ  
 الْمُسْفِينِ ۴ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا

طسّم ہم بجز حروف مقطعات۔ سمن ہمہ معنی زلمہ پانہ خدا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ہم مضامین  
 ہم توہمہ پیٹھ بطریق وحی بجز سوزندہ یوان، ہم بجز ہمہ کتابہ ہمہ آیات۔ ہمک معانی بالکل واضح ہے  
 صاف بجز نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ہمہ آیاتو منزہ ہمہ موقفس  
 پیٹھ آس موسیٰ علیہ السلام ہے فرعون سیدہ قصہ آندرہ اکھ حصہ توہمہ پیٹھ ہر ان بجز۔ پزپاٹ تمین لوکن ہمہ  
 لغہ خیطرہ ہم پڑھ کرہ دن بجز۔ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ بیشک فرعون اوس کو نب لودمت مصرہ  
 کس سر زمینس منز وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا یہ آکن سہ کین لوکن مختلف قسم کرم۔ قبلی آکن باعزت  
 تھاومت۔ سبطی یعنی بنی اسرائیل آکن بے عزت کرم۔ ہمک تفصیل پیہ بیان کر نہ بروٹھ  
 يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ کمزور ہے بہت اوس زنانہ تمواندر اکس جہاقتس یعنی بنی اسرائیلن ہمہ  
 پاٹ کہ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ کھش اوس کرہ ناوان جہدین پگورین ہم ٹوی زیوان آس  
 مارہوا تمین ہمہ آتھ۔ زندہ اوس تھاوان ہنزان زمانن، یعنی کورین بٹھ تمین آتھ خدمت کرہ ناؤن۔ یہ  
 اوسکھ نہ کورین ہمہ خوف ہے خطرہ ہے کھکی۔ إِنَّہ كَانَ مِنَ الْمُسْفِينِ بیشک اوس سوتہای کرہ دنیو  
 آندرہ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا سون ارادہ اوس دینی و دنیوی احسان کران تمین لوکن پیٹھ اسْتَضَعُّوا

فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَهُمْ آيَةً وَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۝  
 وَتَمَكَّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنَزَّىٰ فَرَعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا  
 مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ۝ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ  
 أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا  
 تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝  
 فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ

فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَهُمْ آيَةً وَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ہم کمزور زائد یوان آس اتھہ ملکہس یعنی سر زمین مصرس منز یہ بنادو کہ آس تم دیکھ پیشوا یہ کرو کہ خے دنیا س اندر سلطنت وارث وَتَمَكَّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ یہ دنیا س موقعہ تم اتھہ ملکہس اندر حکومت کرو کہ وَنَزَّىٰ فَرَعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ یہ ہاڈو آس فرعونس تہ ہامانس یہ جنزہ لشکرہ بنی اسرائیلن ہمدہ اتھہ سو چیز ہتھ تم کھو ڈان آس۔ تفصیل امیک ہتھو یہ کہ بیلہ موسیٰ علیہ السلام اتھہ خطرناک زمانس منز پیدہ ہدہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ اُمہ ترود الہام موسیٰ علیہ السلام سدس والدس کہ تہ چلان یہ فرزند دود۔ اسس کاس تہ یہ فرزند تہ شیدہ ہمدہ من تھاوت فَالْتَقَطَهُ فِي الْيَمِّ اودہ بیلہ تہ کھو ڈ کہ تمسدہ تھہ منہ لکھنفس علیہ ترلان تہ سو دریای نیلس اندر صندوقس منز تھاوت وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي یہ ہتھہ تہ کھو ڈ کہ تمسدس پھنفس یا کانس نم بڑ کہ تمبڑہ ہدائی ہمدہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ بے شک آس و اتادون سو فرزند و انھس تہے ہمدہ۔ یہ کرون آس سو پنہ بس و قس پنہہ ہنمبر و اندرہ۔ تو پتہ روز سو تین دود و دان اودہ بیلہ اندلہہ ہدہ کہ راز ہدہ فاش تو پتہ تھاو کہ آس صندوقس منز۔ ائی ترود کہ دریای نیلس منز خدلیہ سند ناو ہتھہ۔ اُمہ دریای نیلگ آکھ شاخ لوس فرعونہ سند یو شای علاقو منز پکان۔ یہ صندوق دوت تپاری فرعونہ سندین علاقن اندر فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا تو پتہ روٹ یہ صندوق فرعونہ سند دودو کو۔ گھر

فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِبِينَ ﴿۸﴾ وَقَالَتِ  
 امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِي لِيُ وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَلَىٰ  
 عَاسِي أَن يُنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۹﴾  
 وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أَمِّ مُوسَىٰ قِرْعًا إِنَّ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ  
 لَوْلَا أَن رَّبَّنَا عَلِي قَلْبهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۰﴾  
 وَقَالَتِ لَأُخْتِي قُصِيهٖ ذَبَرْتُ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ

وایں بی بی آسیہ بن سکوت ہنوی علیہ السلام پر پھر کہ قولہ موجب منجھ سپرہ نوتین لوکن ہندہ خیطرہ دشمن یہ  
 نمک نہ پریشانی ہند ہا مٹ اِن فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِبِينَ ہنز پات فرعون نہ ہان  
 یہ ہنز لشکر آس پند ہند سخت غلطی کرہ ون۔ ہنز دشمن رہتھکھ پند کو چھ کیتھ وَقَالَتِ امْرَأَتُ  
 فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِي لِيُ وَلَكَ تو پند وون فرعونہ سزہ آہنہ، آہن، فرعونس یہ فرزندہ ہتھو میانین نہ  
 چانین اچھن ہند گاش۔ یہ وہجھہ سیت آسیہ سون دل ہنولان لَا تَقْتُلُوهُ یہ متہ مار تون عَلٰی اَنْ  
 يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ دیوہ یہ آسیہ بڑتھہ قایدے واتا وہ۔ بلکہ ہتا وون آس یہ ہن  
 پتھ۔ کیا زہ آس ہتھہ لا ولد۔ سمن آس نہ اوہ ونہ چاچ خبری کینہہ کہ یہ ہتھو سنی فرزندہ سہ سہ سہ اتھ  
 فرعونہ سزہ سلطنت ختم سپرہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أَمِّ مُوسَىٰ قِرْعًا ہا پار سپرہ نوسی علیہ السلامہ سزہ والدہ  
 سہ دل سخت ہتھہ ہتھہ۔ اِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا اَنْ رَبَّنَا عَلِي قَلْبهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
 قریب آوس کہ سکو کہ ہا ظاہر سارنی ہتھہ یہ سوزوی حال، آس نے تھسند دل ہتھت تھوت مضبوط کرہ  
 ہو ہتھہ سکو آسیہ پند کینہہ کالا گاہ گتھت الطمینان نہ یقین کرہ ونیو آندرہ ہنہ۔ وَقَالَتِ لَأُخْتِي قُصِيهٖ  
 ذَبَرْتُ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ تھہ پند ڈوپ نوسی علیہ السلامہ سزہ والدن ہنز ہنہ  
 حضرت گتھو مس ووتھہ ژہ کر تھسند حال دریافت۔ تو پند در لہہ سکو۔ واتان واتان واژ فرعونہ سہ گھرہ۔  
 ختہ روز سکو اچھان اہس دوپرازی پات کہ تین لوگ نہ ہتھہ زہ یہ ہتھہ آس چہ سزہ ہنہ۔ وَحَوَّامُنَا عَلٰیہ

لَا يَشْعُرُونَ ۝۱۱ وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ  
 هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ  
 نَصِحُونَ ۝۱۲ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ  
 وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝۱۳  
 وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ اتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ  
 نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝۱۴ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ

المراضع من قبلُ أمہ اوس بیا کہ تدبیر کورمت۔ امہ امہ رہتموہ برد نشی پتھ موسیٰ علیہ السلام  
 بشرہ دود دود ونہ زمانہ۔ تموروت نہ کانسہ زمانہ بند دود۔ یہ حال اوچت زون تمسزہ بمشیرن موقعہ  
 نصحت فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونہ لكم وهم له نصحون کیاہ بودنودہ توہ  
 اکہ گرک چاہ۔ ہم اہس فرزندس ذمہ داری سان زچھن۔ تم آسن آسنہ سہشاہ خیر خواہ۔ ڈوپ ہس  
 جلد بھن کر یہ کبیرہاہ۔ سووڑھہ ہ ان بھنر والدہ ماجدہ۔ تمونٹھوی ہستان بھن جنہس آس منز ترود۔  
 تان ہیوت تمودود چون۔ تمہہ ڈوپ بو بھن یہ گرہ۔ سمہ رچھن۔ تموکوزس تسلیم۔ فرودنہ الی امہ  
 کئی تمرا عینہا ولا تحزن ہس سووڑامہ وانہس موسیٰ علیہ السلام پنہ ہس والدس بشرہ بھہ شہلن جہزہ  
 کہجہ بہ سپان نہ تم فراقہ کس ہس اندر ہتا۔ ولتعلمن ان وعد اللہ حق ولکن اکثرہم لا یعلمون  
 بہ بھہ سووڑامہ کہ اللہ تعالیٰ سہد وعدہ بھو حق ہ ہوز آسان۔ لیکن افسوس کہ داریاہ لوک یعنی کافر جہنہ  
 یہ کتھہ زمانان۔ اتھہ کتھہ یقین کران ولتابلغ اشدہ واستوی اتینہ حکما وعلما توپتہ علیہ موسیٰ علیہ  
 السلام دوت پنہ طاقت و قوتیہ والنسہ بہ سہد پورہ جوان۔ قوت جسمانی ہ قوت عقلی جہد سہد مکمل، عطا  
 کور امہ تہن گاتہ جارہ علم۔ ہم سلیم۔ عقل مستقیم، ہوتہ بردنٹھہ وکذالک نجزی المحسنین اس  
 ہجہ نیکو کارن بھہ پاٹ رت بدلہ عطا کران۔ امہ اندرہ سہد معلوم کہ فرعونہ سہد مشرب اوس نہ تمونکیر  
 وقتہ اختیار کورمت بلکہ آس تمہہ بشرہ ہنظر۔ اسی زمانگ اکھ واقعاہ سہد کہ موسیٰ علیہ السلام آس اکہ دوہنہ

أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا  
 مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ  
 عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
 إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ<sup>(۱۵)</sup> قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي  
 فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ<sup>(۱۶)</sup> قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ  
 فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ<sup>(۱۷)</sup> فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا

شہرہ نجر۔ تو پتہ ملیا وہاں آئے وَدْخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا تو پتہ ڈالے اتھ شہر س  
 منز ختمہ وقتہ ملیا ایک لوکھ آس بے خبر رات کیت شو کچھ یا ڈپہر س قیلولہ کران فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ  
 يَقْتَتِلَانِ تو پتہ وہجہ تموا تھ شہر س اندر زن جوراہ نہرہ نہر کران هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ  
 اکھ اوس سہو منزہ جہیدہ جماعتک یعنی نبی اسرا نیلو آندرہ ہیا کہ اوس جہد یو ڈشمنو آندرہ یعنی فرعونہ سند یو  
 مصلحو آندرہ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ اُس مُوٹک مدد تم شخصن اُس جہزہ  
 برادری ہند اوس اُس شخصن پیٹھ اُس جہد یو ڈشمنو آندرہ اوس۔ گوڈہ کرے اُس تموز بانی فہما اُس۔ ملیہ  
 نہ تم کینہہ مون فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ اُس لائے اُس موسی علیہ السلام اکھ مکھالہ اتفا قاسد  
 سُو ختم۔ یعنی سُو مُود تمی اکھ مکھالہ سیت۔ اگرچہ مار تکہ قصدہ لائے نہ تمو سہو مُشت بلکہ اوس غرض  
 اُس تمبہہ کران زہ سیتی سہد تمین امیک احساس۔ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ دو کچھ یہ کہیہ شیطانہ سز کوم۔  
 یہ کور نہ مہ جان إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ بیٹک سُو جھو گمراہ کرہ ان اُن دشمن انسانہ سہد۔ کچھ پاتھہ جھو  
 سُو انسانس غلطی منز تراوان۔ چنانچہ خدا اُس کُن کوز کھ رجوع قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي  
 فَغَفَرَ لَهُ دو کچھ اِن میاہ پروردگارہ کہ ظلم پان پاس پس کر نہ مہ مغفرت پس کر کہ تہ مغفرت إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  
 پز پاتہ اللہ تعالیٰ جھو سیٹھاہ مغفرت کرہ ان سیٹھاہ تم کرہ ان قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ  
 ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ یہ دو کچھ میاہ پروردگارہ چونکہ تہ کرت پن نعمت مہ عطا ہند اسپد نہ بو ہرگز کانسہ

يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ  
 لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ﴿۱۸﴾ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ  
 بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمْوَسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تُقَتِّلَنِي  
 كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۖ إِنَّ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا  
 فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَصْلِحِينَ ﴿۱۹﴾ وَجَاءَ

خبر م سندن مددگار۔ لہذا وہ اللہ کے سپہ شہساز مندرچہ۔ مگر یہ آس نہ کانسہ خبر کبھی یہ قتل کتم بہتھو کورمت۔  
 صرف آس خبر اسراہیلین۔ سمنز حمایت موسیٰ علیہ السلام کر۔ رانس اوس موسیٰ علیہ السلام  
 اندیشہ سی اندر فأصبحہ فی الیومینہ خلیفنا یتترقب ۱۸ پگاہ مکس او تھہ موسیٰ علیہ السلام اتھہ شہساز اندر  
 خوف و وحشت کس حاس اندر نہ پیدان اوس خبر چھاوون کیاہ بہ۔ وَاِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ  
 يَسْتَصْرِخُهُ اِی آکھ بیہ سور ایگ شخص اُس مدد منگان او سمجھ کر یکہ نادکر ان مددہ خیطرہ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ  
 إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ موسیٰ علیہ السلام فرمود تمس ڑہ بہتھو کھ پتر پات بالکل ویرہ زخہ ڈولت۔ دوہے  
 بہتھو کھ ڑہ لوکن سیت لڑایہ کران۔ موسیٰ علیہ السلام سپہ قرانہ سیت معلوم کہ ہتھہ از کس قضیس  
 مندر بہ چھہ صاف فرعونی سندی طرفہ زیادتی فلکما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما امہ  
 پتہ پلہ ارادہ کور تموتس شخصہ سبہ رنگ اُس سمن دوشون ہند ڈشمن اوس یعنی قبلی۔ اس اسراہیلین  
 گوگمان کہ زبانی کور حضرت موسیٰ ان مہ پیٹھہ اظہار ناراضگی۔ وکن مائل تمو عملی سزا دہ خیطرہ مہ پیٹھہ  
 دست مہارک قَالَ يَمْوَسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تُقَتِّلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ سولوگ ویرہ ای موسیٰ  
 کیاہ تہہ چھوہ یرحان مہ نہ ما زن اتھہ پانچہ یوہ توہہ اکھ انسان مورہ وکن ان ترید ان تکون جببارا فی  
 الارض وما ترید ان تکون من المصلحین معلوم بہتھو سپہ ان تہہ چھوہ نہ یرحان مگر زبردست  
 بن۔ لوکن اندر اہرہ بہہ نلان۔ تہہ چھوہ نہ ہرگز یرحان اصلاح کرہ و نیو اندرہ آسن۔ یہ لفظ پلہ لوزام  
 قبلی۔ پپارکن اوس تمس راہہ کس قبلی سبہ کلک شور و تھمت۔ قاتلس اوس ڑھانڈو لوگمت۔ سو



رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ  
يَأْتِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢١﴾  
فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٢﴾  
وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ  
السَّبِيلِ ﴿٢٣﴾ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ  
النَّاسِ يَسْفُونَهُ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ﴿٢٤﴾

گو چھ بیتھ فرعونس خبر دیہہ خیطرہ۔ تم ستر جمع مشورہ خیطرہ ہین دربار۔ دربارس منز سہ طے کہ موسیٰ  
علیہ السلام گوہہ قتل من کرنہ۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ لہے مجلسہ اندرہ دو تھہ اکھ  
شخصہ انس موسیٰ علیہ السلام سند یو عجیبہ اندرہ اوس شر کہ ہیر اندہ بیٹھہ یہ ہیر مشورہ سہ ان اوس اوسو  
نزدیک کو چو منز دوران دوران موسیٰ علیہ السلامس لہے قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ  
فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ تمی شخصن ڈوپ ای موسیٰ ہنز پاٹ فرعونہ سند دربار ہتھو مشورہ کران  
تھہہ ہارنہ خیطرہ لہذا نیر و تھہ ہسہ شہرہ منزہ جلد ہنن۔ ہنز پاٹ یو ہتھوس تھہہہ خیطرہ رت یشہ ونیو  
اندرہ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ یہ نو زت در لوموسیٰ علیہ السلام امہ شرہ اندرہ کھوژان کھوژان،  
اندیشہ کران زہ ہتہ ما آسیم کانسہ سیاہ لاران قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ نیر ہیر وقتہ کوزکہ دعای  
میانبہ ہر در دگارہ نجات دہسہ ہمن ظالم لوکن لہے عنہ اچھہ جاییہ و اتاوت وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ  
عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ تو پتہ بلہ تم شر مدینس کن متوجہ سہ خبر آسکھ نہ بوکوت ہتھوس  
پکان دو چھ دیوہ ہنن پروردگار اچھہ جاییہ کن سیز ڈتھہ ہاوہ۔ چنانچہ تی سہہ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ تھہہ  
پتہ بلہ آٹھہ ڈوہوات شر مدینہ ہس اہس کر ہس بیٹھہ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْفُونَ تھہہ  
دہتھہہہ ہلسن ہنز اکھ جماعتھہہ چار دین تریش چاروان۔ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ یہ  
دہتھہہہہ ہمن لوکن درای الگ اکس طرفس کن روزت زمانہ جوراہ پنہ ہنن چارواہن تریش چنہ لہے ہتھہ

قَالَ مَا خَطْبُكُمْ؟ قَالَتَا لَأَنْتَقِي حَتَّى يُصَدِّ الرَّعَاءُ وَأَبُونَا  
 شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿۲۳﴾ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي  
 لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿۲۴﴾ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمِشِي عَلَى  
 اسْتِجْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا

رہاں قَالَ مَا خَطْبُكُمْ؟ تمہیں پر ڈھک جھبہ منطلب کیا، چھوٹے کیا زہ، چھوٹے نہ پتہ نہیں چار پائے تریش  
 چاوان قَالَتَا لَأَنْتَقِي حَتَّى يُصَدِّ الرَّعَاءُ تم دو دو زنا کو دیکھو اُس نے حض چھو تریش چاوان یو تان نہ  
 سم پیل وائیں گواہان جھہ پن تیر ہتھ۔ تو پتہ یو سے آب۔ ہن بچے مڑ آسان بھہ سو بھہ اُس پتہ نہیں  
 تیرن دو ان حیاء شرمہ ہتھہ وجہہ ہتھہ نر ڈن سیت مزائمت سپہ۔ اُس حض سمہ ہوی نہ مگر اُسہ  
 بھونہ گرس منز مرداہ کا نہ تہ۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ بابہ صیب سون بھونہ ڈہ واریاہ دانسہ کن۔ گرس  
 منز چھونہ کام کرہ و ان کا نہ تہ۔ مجبور اہتھہ اُس پانہ یوان تیرن تریش چاوانہ۔ یہ یوزت او موی علیہ  
 السلام سبب دل مہار گس منز رحم۔ فَسَقَى لَهُمَا ائی لومکھ ار ہس۔ تو پتہ کھوز کہ اُسہ کیرہ منزہ  
 آب۔ سوئی چاوا کہ جھہ جانور تمہن ڈون زمانن ہونہ انتقازک تکلیف تگن ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ  
 رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ تو پتہ گے موی علیہ السلام کہ گلہ کس سائس کل تو پتہ کوز کہ  
 دغا۔ ائی میانہ پروردگارہ یو سے نعمتاہ ڈہ مگن سوز کہ کم یا زیادہ نو بھوس تھہ گن سخت محتاج۔ کیا زہ اتھہ  
 سفرس منز اُس واریاہ دوہ گابت۔ سم اوس نہ کھینہ چھہ خطیرہ کھینہہ تہ ستر سپد مت۔ اللہ تعالیٰ ان کور  
 تمیک سامان مہیا کہ تمہہ دو شوے زنا نہ کھینہ گروہ پن۔ تمہن مڈ ڈہ بابہ صمبن از تھہ پانہ آہوہ جھہ دوہہ  
 خوتہ سلی پن۔ تمو کور بھہ سوزوی قبصہ بیان فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمِشِي عَلَى اسْتِجْيَاءٍ تمو سوزاکہ کور  
 موی علیہ السلام نازس۔ سو یلیہ تمہن بھہ مند بھہ مند بھہ شرم و حیاء سان آہی، یہ شریف زادین  
 ہند عادت بھو قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ڈو چکھ میون والد بزرگوار بھو توہہ  
 ناردوان تا اینکہ سوہیہ توہہ امہ احسانگ بدلہ کس توہہ اُسہ سیت کور وہ موی علیہ السلام گئے اُسنہ دوہہ

فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ لَا تَخَفْ لَآتِيَنَّكَ نَجْوَاتٌ مِّنَ  
 الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۲۵﴾ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَاجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ  
 مِّنْ اسْتَاجِرَتِ الْقَوِيِّ الْأَمِينُ ﴿۲۶﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ  
 إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِيحًا فَإِنْ أَتَمَمْتَ  
 عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سَعْدَانِي إِنَّ

موجب اس سیت۔ ذہر پکان فرمودہ موی علیہ السلام اس دید صاحبہ نے کچھ مدینہ تہ۔ نو پکے ڈہ بروٹھ  
 بروٹھ۔ نو پختوس پنمبر زادہ۔ ابراہیم علیہ السلام سندو لولاؤ اندرہ۔ اس ہجند ووند زمانہ گن پلا  
 ضرورت قصد نظر دن ہند کران۔ چنانچہ تھے پانچ واسات تم یہہدس بابہ صائس ریشہ۔ فَلَمَّا جَاءَهُ  
 وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجْوَاتٌ مِّنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اُدھیلہ موی علیہ السلام اوتہہدس بابہ  
 صینس، شعیب علیہ السلامس ریشہ توپتہ کوڑکھ تین ریشہ پین سوڑی قیصہ بیان تمودنکھ تسلی۔ ڈویسک  
 دون مندہر دکانہ غم۔ تہہ لبونہجات ظالم کوکن ریشہ۔ نوت پینکن نہ تمواتھ۔ کیاڑہہ شر ہجند فرعون  
 سزہ عملدار سی منز شامل۔ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَاجِرُهُ سمودوؤ زانکو اندرہ دون اکہ زمانہ شعیب  
 علیہ السلامس ای میانہ بابہ صاحبہ توہہر ہجند ملازم ریشہ نچ ضرورت۔ اس بڑے یہ دن سون چارواہن  
 سیت تریش چاوانونہ خیطرہ لیرن ہجندونہ دن مناسب۔ یہ رشن ہزہ تہہ ملازم۔ إِنَّ خَيْرَ مِّنْ  
 اسْتَاجِرَتِ الْقَوِيِّ الْأَمِينُ۔ ہز پات سم ڈہ ملازم ریشہ ہجند تمواندرہ ہجند ہستریس طاقتورہ لماندار  
 آسہ۔ سم ڈوشوے صفت ہجند سم اندر موجود۔ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ  
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِيحًا شعیب علیہ السلامس ڈوپ حضرت موی اس نو پختوس ریشان بوکرہ توہہر نکاح سمو  
 پنہ نو دوؤ صاحبزادو اندرہ اس صاحبزادہ سیت یوسہ تہہ ہند کرئون ہجند شرطس پینہ کہ آٹھن  
 ڈرمن روزومہ ریشہ ملازم۔ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ توپتہ ہر گاتہہ پورہ دن درمن روزوسو ہجند  
 تہہز مہربانی۔ میانہ طرفہ جبرتہ زور ہجندونہ۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ نو پختوس نہ ریشان توہہر پینہ

شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۲۸﴾ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلِينَ  
 قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿۲۹﴾  
 فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ  
 الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ  
 مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿۳۰﴾  
 فَلَمَّا أَنَّهُمْ آتَوْهُ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ  
 الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنُ يُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۱﴾

یہی معاملہ اندر دشواری ہے مشقت تریاں ہے کہ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ کہہ لیں یہ انشاء اللہ  
 رہے لوگو کو منزه، رت معاملہ کرہ و نوا اندرہ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ تم دو پہلے یہ سپہ توہم ہے میرے منزه  
 معاہدہ مگر آیَمَا الْأَجَلِينَ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ میرے ہتھیار سمودوئے مد تو اندرہ کس مدت ہو پورہ  
 کرہ۔ میرے پیٹھے یہ نہ کرنے کا نہ زیادتی ہے جبر وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ اللہ تعالیٰ ہتھیار سانسہ  
 معاہدہ گواہ کافی فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ تمہارے پتہ پتہ موسیٰ علیہ السلام ملتا ہے  
 مدت پورہ کور در اولیہ شعیب علیہ السلام اجازت ہتھیار عیال ہتھیار مصرس کن یا شامس کن گھوم  
 خیرہ آنس من جانب الطور نارا وہ پکان لکھو آکھ خیر یہ آکھ نہ لکھو ہندہ سبہ و تمہ آکھ۔ آتی  
 و تمہ کوہ طور سے طرفہ نارہ قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ  
 النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ باڑن پتہ نین فرمودہ کہہ تمہ کھمہ دیتہ تمہی۔ میرے ہتھیار نارہ۔ ہو گھومہ تمہ  
 نارس لکھ۔ دیوہ کو یہ ہو وہ وہ ہنز کا نہ خبرا ہتھیار نارہ تو لکھ ہتھیار تمہ پان دشادو تمہ نارہ سیت  
 فَلَمَّا أَنَّهُمْ آتَوْهُ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنُ يُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ  
 رَبُّ الْعَالَمِينَ تو پتہ پتہ موسیٰ علیہ السلام اتھ نارس کھ تل وات لکھ مید لکھ وہ تمہ طرفہ ہا برکت جاہ

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى  
 مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يٰمُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ  
 الْأَمِينِينَ ﴿۷۶﴾ أَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجَ بَيْضَاءَ مِنْ  
 غَيْرِ سُوءٍ وَأَضْمَرَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذُنُوبُهُمْ  
 مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فَاسِقِينَ ﴿۷۷﴾  
 قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يُقَتِّلُونِي ﴿۷۸﴾

پیشہ اگر گلہ منزه گو کہ آوازہ ای موسیٰ بیٹک نوبی ہتھوس معبود برحق۔ عالمن ہند زب۔ وَأَنْ أَلْقِ  
 عَصَاكَ بیا کہ آلو گو کہ کبہ لورہ نمن ہن تراود ہتھر۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا  
 وَلَمْ يُعَقِّبْ لورہ ہتھر تراود تھہ بلہ وہ ہتھک سولور زاولس سرفہ سہ پانٹھ ضر ضر کران۔ تہ وہ ہتھت تھارے  
 تہ کھوڑ۔ تھر پھر تہ ہو ہتھکھ ڈالن۔ عمالسن کن ہو ہتھکھ گھوٹن۔ ہوت نظر تہ ڈرکھ نہ۔ اللہ تعالیٰ ان  
 فرموس یٰمُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِينِينَ ای موسیٰ برو تھکھ کھوڑ منہ بیٹک تھہ  
 ہتھوہ امنس منز روزہ ونیو آندرہ۔ توبہ دلہ نہ کانہ تکلیف۔ تہ ہتھ نہ کانہ کھوڑ چ کتھوہ۔ ہتھہ ہتھوہ تھہ  
 مٹزہ۔ بیا کہ مٹزہ ہتھ تھہنہ اَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ تراود تھہ اتھ ہن  
 نالس پنہ نس منز۔ تو پتہ کھڑو سو اتھ نیرہ سفید پتہ پتہ کرہ ون۔ کتھہ بیماری دراک۔ وَأَضْمَرَ إِلَيْكَ  
 جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ اگر تھہ عصاء س اژدہ ہتھہ سیت خوف پیدا سپدہ سو ڈور کرنہ ختھر وہ ملنا وہ پتہ ہن اتھ  
 پنہ نس گھو مس سیت سو سپدہ پتہ تھوی ہتھہ اوس اصلی حالتس اندر تہہ سیت ڈلہ توبہ خوف تہ کھوڑن  
 فَذُنُوبُهُمْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ سے زہ چیز لورہ سفید اتھ یعنی بد بیضاء ہتھہ زہ خیرہ دلہ  
 تھہوس پروردگارہ سپدہ طرفہ فرعونس تہ تھہن و زیرن تہ امیرن ہتھہ گھوٹہ ختھرہ سمیک توبہ حکم  
 کرنہ یوان ہتھہ إِنَّهُمْ كَانُوا فَاسِقِينَ بیٹک تم ہتھہ جماعتہ سخت نافرمان قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ  
 مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يُقَتِّلُونِي موسیٰ علیہ السلامن ڈوپ، ای میانہ ہروردگارہ نو ہتھوس گھوٹہ

وَ أَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا  
يُصَدِّقُنِي ۖ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿۲۸﴾ قَالَ سَنَشُدُّ  
عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكَ مُلْكًا فَلَا يَصِلُونَ  
إِلَيْكَ إِلَّا بِإِذْنِنَا ۖ أَنْتُمْ مِمَّنِ اتَّبَعَتِ الْغَالِبُونَ ﴿۲۹﴾  
فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا يَتَّبِعْتِ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ  
مُفْتَرَىٰ وَمَا سَبِعْنَا بِهَذَا فِي آيَاتِنَا الْأُولَىٰ ۖ ﴿۳۰﴾ وَقَالَ  
مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ يَكُونُ

خیطرہ چانس کھمس قعیل کرنے خیطرہ تیار۔ مگر ڈوہے خبری کہ مہ ہتھ نورمت تہمد اکھ شخصہا ہذا ہتھو  
مہ فطرہ گودھان تہم تم ماازن جہدہ ہڈل مہ۔ تبلیغ کر تک ایہ نہ موتے وَ أَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّي  
لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي مہ ہتھو گودھان ہتھمیر زیوہ منز۔ میون نوی ہارون ہتھو میاہہ خونہ  
نصیح زیوہ کن۔ سوتہ سوزن مہ سیت مددگار۔ سوکرہ ہا میانس تقریرس تا سیدہ تصدیق منفصل پاتہ ونہ  
ہا سون مہان تہم۔ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ کیا زہ نوی ہتھوس کھوژان تم گودھہ نہ مہ اپزور زان  
قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكَ مُلْكًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكَ ۖ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنْ  
فر موداس کہ واقعی ضرور گرو اس مضبوط تہمز نسر تہمدس ہا ی سیدہ سیتہ ہہہ د مودہ توبہہ ڈوشون اکھ  
خاص شوکتہاہ نہ ہتھتہاہ۔ ہہہ سوطا تہتہاہ سمہہ سیتہ نہ توبہہ تم کا نہہ تکلیف تہکن وادہ تاروت۔ ہا ی تہتنا  
أَنْتُمْ مِمَّنِ اتَّبَعَتِ الْغَالِبُونَ ۖ اہس گودھو سان آیات نہ تہجزات ہتھہ تہہہ ڈوشوے ہہہ ہم تہمز ہیروی  
کران۔ زور و ضرور تہم پینہہ غالب۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا يَتَّبِعْتِ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ  
مُفْتَرَىٰ وَمَا سَبِعْنَا بِهَذَا فِي آيَاتِنَا الْأُولَىٰ ۖ توبہہ ہلہہ آو تہم زوہہ موسیٰ علیہ السلام سان واضح نہہہ آیات ہتھہ،  
تہم لگہ ونہہ ہہہ ہتھونہ مگر جوداہ، خدا اہس پینہہ خوا تہخواہ تہمراونہ آمت۔ اسیہ ہتھنہ سمہہ تہمہہ ڈوزہ موے پتہ

لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۸﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ  
 يَا أَيُّهَا الْمَلَأْمَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلٰهِ غَيْرِيْ فَاوَدُّ لِيْ  
 يَهَامُنْ عَلٰى الطَّيْنِ فَاَجْعَلْ لِيْ صِرْحًا لَعَلِّيْ اُظْلِعُ اِلَى  
 اِلٰهِ مُوسٰى وَاِنِّىْ لَاطْنُۃٌ مِّنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿۲۹﴾ وَاسْتَكْبَرَ  
 هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا  
 لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿۳۰﴾ فَاخَذْنَاهُ وَجُنُوْدَهٗ فَغَدَقْنَاهُمْ فِى الْيَمِّ

نمین بزرگترین مائین بندگان بهیبه و قَالَ مُوسٰى رَبِّىْ اَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْقُلُوبِ مِنْ غَيْرِهِ وَمَنْ يَتَّبِعُوْنَ لَهُ  
 عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ موسیٰ علیہ السلام فرمود که ایگ جواب۔ مینس بدوردگار س  
 بختیور معلوم کہ سبب آؤس بهیبه بود بدانت بیت۔ بیه بخت الله تعالیٰ س نور خبر عس شخصس سپده انجام بخر  
 دنیاس اندر، بیشک ظالم، سم نه بدانتس به صحیح و نیس پیٹھ آسن تم سپدن نه هرگز کامیاب نه دنیاس  
 اندر، نه آخرتس اندر۔ فرعونس سپد اندیشہ، تم بوزہ موسیٰ علیہ السلام سنزہ دلیلہ کہ خبر چھامیان  
 لو کہ ماسپدن مائل موسیٰ علیہ السلامس کن تم به کرنا و دربارک لو کہ جمع وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأْمَا  
 عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلٰهِ غَيْرِيْ تین لو کن ہیوئن وئن ای اسیر و و وزیر و بو بختوس نه زانان پانس و رای  
 تھیرہ خیطرہ کا نہ معبودہ فَاوَدُّ لِيْ يَهَامُنْ عَلٰى الطَّيْنِ فَاَجْعَلْ لِيْ صِرْحًا لَعَلِّيْ اُظْلِعُ اِلَى اِلٰهِ  
 مُوسٰى اے ہامان ژہ دہ ہار سیرہ کو بندہ تو پتہ بتا مینا خیطرہ و ختہ سیرین ہنزا کہ تھنر عمارتہا تھی تھنر  
 و مدہ نو نظر حضرت موسیٰ سدس خدا نس کن وَاِنِّىْ لَاطْنُۃٌ مِّنَ الْكٰذِبِيْنَ نو شخصس زانان سو اپزونہ  
 و نیو اندرہ و استکبر ہُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يَرْجِعُوْنَ حکمرہ به  
 غزورہ کن آس فرعونس به تھنرہ لشکرہ ہا حق سر بلندی ہیو مژ کرن۔ تم آس زانان کہ تین بختونہ دنیاس  
 سنزہ نیرت اسہ بہیبه و استخوی۔ فَاخَذْنَاهُ وَجُنُوْدَهٗ فَغَدَقْنَاهُمْ فِى الْيَمِّ اتھ ککبرس به غزورس پیٹھ  
 سزادہ خیطرہ زوٹ اسہ فرعونس بیہ تھنر لشکر۔ تو پتہ دت بھرت دریاؤس منز تو پتہ پھاؤ سو اسہ تھ

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿۴۰﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً  
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿۴۱﴾  
وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ  
مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿۴۲﴾ وَلَقَدْ اتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ  
مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بِصَاحِبِ  
الْإِنسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۴۳﴾  
وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا

منزل۔ فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ پس دیکھو کتنے ہیچہ انجام سید من ظالمین ہند وجعلناہم آیتہ۔ آیتہ یاد دہون۔ آس آس بناو مت رئیس۔ زٹھہ ہم لوکن نادوہ ان آس نارس کن ویومہ القیمہ لا ینصرون۔ قیامت دوہ آسن تم بالکل بے بس۔ بے گنس کا نہ تہ کہ نہ تمین کا نہ مددواہ واتبعنہم فی ہذیہ الدنیالعونہ۔ پتہ تھا آسہ تمین لوکن بچھہ دنیاہ من منزلہ لکن فی ویومہ القیمہ ہم من المقبوحین۔ قیامت دوہ آسن تم بد حال لو کو اندرہ ولقد اتینا موسیٰ الکتاب من بعد ما اهلکتنا القرون الأولى بصاحب الإنس وهدی ورحمة لعلہم یتذکرؤن۔ ہنر پاپ آسہ ستر عظاموسی علیہ السلام کتاب (یعنی تورات) برو تھم ہا فرمان اقوام، قوم کوح، قوم عاد، قوم ثمود، ہلاک کرنہ پتہ۔ بچھہ کتابہ منزل تمین لوکن ہندہ فیطرہ آسہ جبہ دلیلہ ہیہ نوڈ ہدایت ہیہ ہند رحمت۔ بچھہ تم نصیحت حاصل کرن۔ وما کنت بجانب الغربی إذ قضینا الی موسیٰ الامر وما کنت من الظالمین۔ ہیہ آسہ نہ ہیہ یارسول اللہ کوہ طور کبہ مغربہ کی طرفہ بٹکس آسہ موسیٰ علیہ السلام احکام یعنی تورات عطا کتر۔ حکم کوزس فرعونس بشرہ پیغام واتہ ناٹک۔ ہیہ آسہ نہ ہیہ تمہ وقتہ کیو لو کو اندرہ کہ پانہ کیاہ آسہ وہ حالاتن ہند مشاہدہ کورمت۔ ولکننا انشاکا قروننا متظاول علیہم العبر بلکہ ستر



كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۱۴﴾ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ  
 الْعُرُومَ مَا كُنْتَ تَأْوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا  
 وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿۱۵﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا  
 وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ  
 مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۱۶﴾ وَكُلًّا أَن تُصِيبَهُمْ  
 مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيَهُمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ  
 إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُنَبِّئَ بِآيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۷﴾ فَلَمَّا

پیدہ آسہ واریاہ قوم موسیٰ علیہ السلام پہ۔ تہزے غمرہ سپرہ تمن پیٹھ زنجیر۔ وَمَا كُنْتَ تَأْوِيًا فِي  
 أَهْلِ مَدْيَنَ یہ آسہ نہ توہہ شر مدینہ کین لو کن منزہہ وَاِن تَتْلُو عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا  
 مُرْسِلِينَ تا اینکہ ہر ہو تہہ تمن لو کن پیٹھ سان آیات بلکہ آس آس توہہ پیٹھہ ہنوت سوزہ وَاِن۔ آس سوز  
 توہہ کن تم حالات وواقعات لوہہ تہوہ توہہ تم حالات وواقعات بیان کرت۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ  
 نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ  
 یہ آسہ نہ تہہ کوہ طور کہ طرفہ موجودیلہ آسہ آلودمت (یا موسیٰ انی انا اللہ رب العلمین) لیکن یہ تہہ  
 تہہ ہر پروردگارہ سز تہہہ حقہ ہڈ مرانی کہ تہہ سز نوہ ہی آخر الزمان۔ یہ کر نوہ ہنتر تمو  
 واقعات وواقعات تہہ تہہ کر و تمن لو کن تمن رتہ نہ توہہ برو تہہ کا نہ ہم کرہ وَاِن پیٹھ راہ آمت وحقو دیوہ  
 تم نصیحت رتن وَكُلًّا أَن تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيَهُمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا  
 رَسُولًا فَنُنَبِّئَ بِآيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آس سوز ہونہ کن کن پیٹھہ۔ ہر گاہے یہ تہہ آسما کہ بلکہ  
 تمن کا نہ مصیبت نہ ہلایاہ وَاِن ہاپنہ تمن تمن پیٹھ کا تمن ہندہ سبہ سمہ تہہ یو اتھو برو تہہ کن سوز مرہ  
 آسمن اتی وپہ ہن تمہہ سانہ خدا یا ژہ کو نہ سوز تمن آسہ کن کا نہ پیٹھ راہ ہی آیات ہتھ آس کرہ ہو تمن

جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا  
 أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ  
 قَالُوا سِحْرِن تَظَاهَرًا وَقَالُوا إِنَّا بِكُمْ لِكْفُرُونَ ﴿۲۸﴾  
 قُلْ قَاتُوا بِيَوْمِ مَدْيَنَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا اتَّبِعْهُ  
 إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۹﴾ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُمَا  
 يُتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ

چائین آیاتن ہنز بیروی۔ یہ آسمو آس با ایمانو اندرہ۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا  
 اوتی مثل ما اوتی موسیٰ وون بلکہ تمین لہر سانہ طرفہ امر حق یعنی رسول برحق یہ دین حق ووت  
 دینہ لگ تم اس پیغمبرس کونہ آہ توحہ کتابہ عطا کرنہ اثرہ موسیٰ علیہ السلام عطا کرنہ آہ یعنی ا کہ  
 وٹہ ساری کتاب اکی ساتہ۔ اُولَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ کیاہ تمو کورنا انکار تھہ کتابہ  
 یوسہ عطا کرنہ امر آس برو تھہ موسیٰ علیہ السلام۔ سوئی یکہ وٹہ اکی ساتہ نازل کرنہ امر آس۔  
 قَالُوا سِحْرِن تَظَاهَرًا تم کافر آس ومان کہہ سمہہ دو شوے کتابہ (قرآن مجید ۷ تورات) ہجہ ہجر ۷  
 جو داکہ اس موافقت کران۔ وَقَالُوا إِنَّا بِكُمْ لِكْفُرُونَ یہ آس زبان آس ہجہہ دو شون کتابن انکار  
 کران قُلْ قَاتُوا بِيَوْمِ مَدْيَنَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا اتَّبِعْهُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ہجہہ فرماؤ کہ  
 یارسول اللہ، ای مکر و ہجہہ مکر تو پیش خدایہ سیدہ طرفہ کتابہ یوسہ زیادہ و تھہ ہادہ وون آسہ سمو وونو کتابو  
 خوتہ نوبہ کہہ ظہر تھہ چی بیروی ہجہہ یہ تھہ ہجز وٹہ وون کہہ سمہہ زہ کتابہ ہجہہ ہجر ۷ جو داکہ  
 يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُمَا يُتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ہر گاہ نہ تم یہ مکر تھہ مکن ئس زانو کہہ تم ہجہہ  
 ہجز بیروی کران بلکہ ہجہہ تم پنہ نین نفسہ چین خواہش ہنز بیروی کران وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ  
 هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ سمہہ اکھاہ ہجہہ گراہ ئس شخصہ سیدہ خوتہ ئس پنہ ہجہہ خواہش ہنز بیروی  
 کہہ خدایہ سیدہ طرفہ تھہ ہدایہ ورا ای إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ہجز پاٹ اللہ تعالیٰ ہجہہ

هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾  
 وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾ الَّذِينَ  
 اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذْ أُتِيْلَىٰ عَلَيْهِمْ  
 قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾  
 أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَوَيَدْرُءُونَ  
 بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِذْ أَسْمَعُوا  
 اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ

و ترجمہ ہوا ان پتھمن ظالم لو کن ہم یوزو صبح نہ نون سہت گمراہی نہمہ بازین نہ۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ بیٹک آسہ داتنو تہن لو کن پنن کلام یعنی قرآن مجید پوئس پتھ پتھ تم لو کہ بار بار تازہ بتازہ یوز نہ سیت نصیحت رشن۔ یعنی آس پتھ ہو اکی سادہ اکہ و نہ سوزت گمراہ سوز سوزوارہ وارہ جمہدی فاندہ ٹیطرہ آذینین اتینہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون تم لو کہ سمن آسہ سمہ قرآن مجید ہر دو تھ کتاب عطا کر تہن اندرہ ہم حق شناس چھہ تم چھہ پتھ قرآن مجید س پڑھ کران وَاِذْ أُتِيْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ علمہ تہن پتھ یہ قرآن مجید چھو پر نہ یوان، تم چھہ زبان آسہ کمر پڑھ اتھ۔ بیٹک چھو یہ سانس پروردگارہ سندی طرفہ۔ آس آس اکہ نازل سپ نہ برو ٹھی اتھ تسلیم کرہ دن اُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَوَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ اسی قسمہ کین لو کن کیا یہ ڈوگن مزور عطا کر نہ جمہدہ صبر کر نہ ٹیطرہ یہ چھہ تم لو کہ نیکی سیت ہدی ہند مقابلہ کران یہ چھہ خرچ کران تھی منزہ ٹیس اسی تہن عطا کور خدایہ سزن و تہن اندر وَاِذْ أَسْمَعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ یہ علمہ تم یوزان چھہ پانس نسبت کانہ پتھ کتھہ نکلن نہمہ بے توجہ چھہ سپان تمہہ نہمہ دن نہ یوز کھوی وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ یہ

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ۝ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ  
 أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ  
 بِالْمُهْتَدِينَ ۝ وَقَالُوا لَئِنْ تَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نَتَّخِظُ  
 مِنْ أَرْضِنَا وَأَلَمْ نُتَمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ  
 كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝  
 وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتَبَّكَ مَسْكِنُهُمْ

جہدہ زبان تم اسہ ولتہ پنہ نین عملن ہنز مذور توہرہ ہجھوہ پنہ نین عملن ہنز مذور۔ اسہ ہجہ ہر ونٹھ تی ہر  
 اس گرو۔ توہہ ہجہ ہر ونٹھ تی ہر جہدہ کمر و سَلَامٌ عَلَيْكُمْ میانہ طرفہ جھوہ سلام۔ اس گروہ توہہ مقابلہ ہجھ  
 تھوہ سبت لَاتَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ اس جہدہ جاہل سبت تھی کر ان اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ  
 اللہ یہدی مَنْ یَشَاءُ ہنز پات جہدہ نہ حض ہجھیان نہ ونہ ہجھہ لکھہ سونہس توہہ خوش کر ہا۔ بلکہ اللہ  
 تعالیٰ نِس یزھہ نِس گرہ ہدایت نِس نہ راہ راستس ہجھہ۔ ہدایت کرہ نچ قدرت ہجھہ کانسہ خدا نِس  
 در ای۔ ہدایت ہجھہ تھی ہر ہجھوہ کانسہ معلوم کہ کس نہ ہدایت نہ کس نہ نہ وهو اعلم بالْمُهْتَدِينَ  
 ہجھہ ہجھوہ سنی زیادہ زندون کہ ہدایت نہ و تھہ لہ ون کم جہدہ وَقَالُوا لَئِنْ تَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نَتَّخِظُ  
 مِنْ أَرْضِنَا ہجہ جہدہ بعضی کافر دنان ہر گاہ اس جہدہ ہدایت ہجھوہ ہر وی گرو، دنان اسلام قبول گروہ ہجھہ سمو  
 اس پنہ شرہ منزہ ہجھوہ ہر ہر کڈنہ۔ جھہ بے وطنی ہند تکلیف نکلو۔ ہجہ سپدہ معالجہ ہر پریشانی او کھ  
 نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ہر ون  
 ہجھہ ہجھوہ محض لغو کیا زہ اسہ ہجھہ نا جای و ژمژ تھہ حرمس منزہ تھہ منز امن ولمانہ سان روزت ہجھہ۔ کیاہ  
 ایمان آرت سپدیا من ہجھہ ہدایتی ہر گزند۔ جھہ خر مس کن و اتخانہ ہجھوہ یوان پر جھہ نچہ قسمک میوہ۔ رزق  
 جہدہ عطا کر ان اس تمن پنہ طرفہ کانسہ ہجھہ ہجھہ ورتہ در ای۔ مگر تمہو آند رہہ جھہ واریاہ لو کہ ہم نہ سمہ تھہ زندان  
 جہدہ۔ تمن ہند ہجھہ خیال کر ان۔ بیا کہ سبب ہجھوہ ہجھہ ایمان نہ انہ نک کہ تم ہجھہ پنہ خوش بھیشی ہجھہ ہاز

لَمْ تُسْكَنْ مِّنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿۵۸﴾ وَ  
 مَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ سُوْلًا لِّيَتْلُوا  
 عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿۵۹﴾  
 وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعٌ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا

کران = تمہاں۔ یہ ہے۔ چھ جہز حماقت کیا زہ۔ وَاہْلُهَا ظَالِمُونَ قَرِيْبَةٌ لِّبَطُوْرَتِ مَعِيْشَتِهَا فَيَتْلُوْكَ مَلِكُهُمْ  
 لَمْ تُسْكَنْ مِّنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ اسے گال دارین شہر ان ہند لو کہ سم فخر ہے عتھر  
 آس کران پنہ بس سامان عیش و آرامس پیٹھ۔ کیا چھ جہیز گروہ ویران ہست جہیز ان اکھنن ڈیشمان۔  
 تین پتہ آئی نہ تم گرہ آبادی کرنہ زمانہ مگر کہ سی کالس۔ چھ پانہ کہ کانہ مسافر اچھ اتفاقا تو گن پتہ  
 روزہ کم کینہہ کالاہ چھ کڈنہ خیطرہ یا تماشہ وچھ خیطرہ ہیہ تہ غوبہ۔ یا شمس کھڈس روزہ تین جانن  
 اندر۔ آخر کار زودا ہی جہیزہ ساری مال و دولتک مالک کیا زہ آس چھ فناء و زوالہ ہتھ منزہ تہ پاک۔  
 بیا کہ خبہ چھ تین گواہان کہ ہر گاہ جہز ہلاکت چھ سبز مڑ جہیزہ مگر سبہ نیلے تین موجودہ کافر ان یہ  
 واریاہ کال گو مگر چہ کامہ کران میلہ کونہ چھ سم تہ ہلاک گواہان۔ آئی شبہہ سو کہ چھ سم ایمان لان۔  
 امہ شہک جواب چھ کورہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ سُوْلًا لِّيَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا اچھ  
 پروردگار چھونہ تہ شہرہ کین لو کن ثوتان گالان ثوتان نہ تین گن جہیزہ س بندس شہرس منز چھو  
 سوزان کانسہ پیٹھرس بس تین پیٹھ پران چھوسان آیات وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ تو  
 پتہ چھ کھنہ آس شہرن ہند لو کہ گالان مگر میلہ بلہ تم لو کہ کانہ ظلم و ستم یا شرارت کران ہین۔ اتھ  
 قانونس موافق آو توبہ سبت معاملہ کرنہ۔ نہ آوہ توبہ پیٹھرہ سبہ ہینہ برو تھ ہلاک کرنہ نہ پیٹھرہ سبہ  
 پتہ۔ بلکہ ویکھ تان آوہ نہ خبہ ہلاک کینہہ کرنہ۔ مگر وین گواہان کینہہ ددہ، ہر گاہ جہیزہ تہے زود  
 میلہ چھو توبہ ضرور سزا کھون۔ چنانچہ جنگ بدرس وغیرہ منز سہڈتی۔ بیا کہ کتھاہ تہ چھ مانع ایمان نہ  
 بس سو گویہ ہے کہ دنیا چھو نقد امہ سو کہ چھو مر غوب آخرت چھو وعدہ آئی سو کہ چھو غیر مر غوب۔ لہذا  
 چھنہ دنیا ک رغبت دلو ہتھ زور سہڈان تمیک جواب چھو اللہ تعالیٰ فرماوان وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ

عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۶۱﴾ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدْنَا  
حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿۶۲﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ  
شُرَكَاءِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۶۳﴾ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ  
الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا  
إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِلَّا نَانًا يَعْبُدُونَ ﴿۶۴﴾ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ  
فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ

فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا یہ جس مال تو بہہ دنیا سے اندر عطا ہو کر نہ ہو بھلو محض کیوں دو بہن  
بہرہ ٹھیلو۔ دنیا ہے کہ زندگی بہت متاع ہے۔ زینت ہے عمر ہنس و ہنس سیت و دیر سو ہے۔ و مَا  
عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ رٹن کا من بہت اجر ہے۔ ثواب جس اللہ تعالیٰ اس بھلے نیکو کارن سیت بھلو سو بھلو  
سینہ بہتر ہے۔ سینہ ہوشیرون ہے۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تو بہہ بھلو ہاڑ بہن ہے۔ فکرہ ٹران آفمن وَعَدْنَاهُ  
وَعَدْنَا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ کیا سو شخص جس سیت اسے رت و عدہ کورمت بھلو۔ جس ضرورت تھہ وعدہ سے  
حاصل کرہون بھلو کمن مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا سو چھٹس شخص جس اسے تمیح تکہ نوو دنیا ہے  
فخص زندگی منزاکہ ناپائیدار متاع سیت۔ ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ تو پتہ ہے سو قیامتک دوہ  
گر فارگرت حاضر کر نہ۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ یہ بھلو سو دوہ قابل  
ذکر سہرہ دوہ اللہ تعالیٰ تین کافرین زجر و توشہ پاٹ آلودت پر ژہر اڑتہ ہجہہ تم تم تہہ میان شریک  
زبان آسوکہ۔ شیطان بہرہ ڈالہ سیت۔ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ دینہ لکن تم لو کہ تم سن پینہ  
عذابک حکم محقق ہے۔ ثابت سہمت اسے رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا ای سائہ پروردگارہ تم لو کہ بھلہ  
ہشک نے سہو اس گمراہ گمراہ غویینہم کما غوینا اس گمراہ گمراہ چھ پاٹ اس پانہ گمراہ سہمت اس

كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿١٧﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ  
 الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨﴾ فَعَبَّيْتُ عَلَيْهِمُ الْآنْبَاءَ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا  
 يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٩﴾ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ  
 يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٢٠﴾ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا  
 كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢١﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ

تَبْرَأًا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِلَّا آئِنًا يَعْبُدُونَ اَس جھڑو بروئٹھ گنہ دست برداری دوان۔ سم آس نہ اسیہ  
 عبادت کران۔ امن اوس نہ اسیہ سیت کانہ تعلق وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَذَعَبُوهُمْ فَلَمَّا  
 كَسَبْتُمْ ذُنُوبَكُمْ رَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ تمہ پتہ بیہ تمئن مشرکن وند۔ ویہ آلو تمئن  
 باطل معبودن سم شریک آسوکھ ٹھہراوان معبود برحقس۔ توپتہ دلکھ تم آلو۔ تم دلکھ نہ توره کانہ  
 جواباہ۔ توپتہ دلکھ نظر عذابس پیٹھ۔ نہنہ لگن ای کاش کونہ آس اَس دُنْيَا س اندر سبیزہ و تہ پیٹھ۔ تھہ  
 عذابس مانپدہ ہو گر تار۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ بیہ سمہ دوہنہ تھہ  
 آلو تھہ پر تھیکھ اللہ تعالیٰ ای لو کو توہہ کیاہ جواب دژدوہ دُنْيَا س اندر میانین تھہبرن فَعَبَّيْتُ  
 عَلَيْهِمُ الْآنْبَاءَ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ نَس گواحن تھہز۔ و ذہنہ لکھ ساری مضمون مشرت۔ نہ لکھ  
 پنہ نین دامن منز یاد کینہہ تمہ دوہنہ نہ لکھ یاد ی تھہبر کیاہ آس اَسہ و تان نہ تھکن اکھ اگس پر تھت کیا زہ  
 ساری آسن پریشان فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ البتہ و دوان سم  
 اکھ توبہ کور دُنْيَا س اندر بیہ اون ایمان بیہ کرین رتھہ عملہ تمئن لو کن جھہ امید کہ تم آسن آخر نس  
 منز رستہ گازوہ فوز و فلاح لبہ و نیواندرہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ تھہہ پروردگار جھو ٹکوی کمالہ  
 کیو صفتوسیت تھہت۔ چنانچہ سو تھہہ چیزس پیدہ کرن یڑھان جھو تھہہ جھو پیدہ کران۔ ٹکوی اختیار جھو  
 محس یوت۔ نَس حکم سو یڑھان جھو تہہ پندہ جھو کران سو ی جھو انبیاء ان ہمدہ ذریعہ نازل فرماوان۔  
 تشریحی اختیار جھو نَس یوت یعنی کینہہ چیز شریعت مقرر کرن ماکان لہم الخیرۃ تمئن لو کن جھو نہ

مَا تَكُنْ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٦٩﴾ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ  
 الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾  
 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْكَيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ  
 الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾  
 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ  
 الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا

احکام تجویز کر تک کا نہ تھا۔ جس حکم سوزیہ سوزی کرہ جاری۔ ہم مشرک جہہ پنہ طرفہ شرک  
 جائز کران مگر **مُبْعَنَ اللّٰهُ وَتَعْلٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ** سوزیہ سوزیہ پاک بالا اور تر تم کو کن ہند یو ساروی  
 شر کو بھہ **وَرَبِّكَ يَعْلَمُ مَا تَكُنْ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ** جہہ پروردگار جہہ شہہ کامل علمہ اول کہ سوزی  
 جہہ زمانہ سوزی یہ جہہ دل پو شیدہ تھاوت جہہ یہ سوزی یہ تم نراوان نہ ظاہر کران جہہ  
**وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ** یہ جہہ سوزی معبود  
 بر حق جس درای نہ کا نہ معبوداہ جہہ سوزی جہہ سوزی سزاوار دنیا اس منزہ آخر جس منزہ کیا زہ جہہ  
 نصر فات جہہ دوشون عالمن اندر جہہ ہم دلالت جہہ کران جہہ کما کس پیٹھ دار وندار جہہ  
 حمد سزاوار اس جہہ جہہ جہزی حکومت دنیا و آخر جس منزہ جہہ قوت نہ وسعت جہہ سلطنت  
 جہہ ساری ایو جس گن داتاوند۔ جہہ جہہ جس درای جہہ کاسہ گن گوہت۔ جہہ چیز جہہ سوزیہ  
 سیت جہہ الوہیت ثابت سپدان جہہ **قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْكَيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ**  
**مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ** فرماؤ کہ جہہ یارسول اللہ ای لو کو کلامہ و نتو جہہ ہر گاہ اللہ  
 تعالیٰ توہہ ہمیشہ خیطرہ تھاوہ راستہ قیاس جان معبود بر جس درای جہہ معبود و جہہ نش ائت ذہک گاش  
 جس جہہ سوزی خدر جس اندر نہ یکا۔ جس جہہ جہہ توحید جہہ صاف دلیلہ نوزان **قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ**  
**اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تَسْمَعُونَ**



تُبْصِرُونَ ﴿۴۱﴾ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا  
فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۴۲﴾ وَيَوْمَ  
يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۴۳﴾  
وَتَزْعُمَانِ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ  
فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۴۴﴾

ای انظارِ خداوند بخیرہ فرماید کہ جبہ امیک بر عکس کبہ تلامبہ دینو ہر گاہ اللہ تعالیٰ توبہ پیشہ کرہ سوزوی وقت ذہی دودہ ہمیشہ بخیرہ قیاس تان۔ معبود بر حقس وراکی کبہ معبودی بچہ توبہ نشہ رات کتھہ منہ منز جبہ آرام و قرار بیکو کمرت۔ کیاہ جبہ ہجود ناخدا لہ سزہ بدتھ رت دارہ اچھان۔ تمسند تھہ رتس اندر سکوی آسن ہجود منکان الوہیتس اندر تہ سکوی آسن۔ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سونعم ہجود تھوی کہ یہ ہجہ ہمزہ رحمت تہ مہربانی کہ تم کمر جبہہ بخیرہ رات تہ دودہ پیدہ۔ ہجہ جبہ راژ منز آرام کمر وہہ ہجہ دوتس منز تھہ رزق ڈھلڈو۔ یہ ہجہ جبہ ہمزہ سن دوشون تھون پیشہ شکر وہ۔ نس اتھہ انعامس اندر تمسند سکوی آسن تہ ہجود منکان تمسند معبود آسمنس منز سکوی آسن۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ یہ سمہ دودہ اللہ تعالیٰ مشرکن بدو ت فرماوہ ہجہ بے لو کہ تہ ہمزہ سوائی بوزن۔ ای مشر کو کت گوہ تم معبودان باطل سم جبہ میان شریک زانان آسوکہ وَتَزْعُمَانِ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا یہ انون آسہ برو تھہ کن پر تھہ اتمہ منزہ اکھ اکھ گواہہ بنے تہہ اٹک پیغمبر نس کمر ونا فرمانی ہند سوزوی حال بیان کرہ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ تو پتہ ونو آس سارنی اتمن ہندین مشرکن کہ اے مشر کو تھہ شریکہ جوازہج کانسہ دلہاہ کمر و پیش فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ تہہ سادہ زانن تم کہ پتہ زانوس خدا لہ سوزوی فرمان نس تم پیغمبرن ہندہ ذریعہ و اتاؤدو۔ یعنی توحیدک پوز آسن تہ شرکک باطل آسن سپدہ تھن معلوم وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ تہہ سارے اچہہ تھہ گوہن ناؤد تہ ضائع تھن نشہ سمہ تم دنیاہ س اندر

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ  
 مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ  
 إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿۶۷﴾  
 وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ  
 مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ

تھمراوان آس کہ معبودان باطل کرن آسہ شفاعت إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ قارون نے خدا سے حال و چھو کہ تمس جس بخش آؤ گھرہ = نافرمانی سببہ۔ نس دیت نہ کا نہ نفع = فائدہ مال و متاع بلکہ سہ تھمرا مال و متاع نس سبب تہا و نہ باد۔ تھمرا مختصر قصہ = محتو تھمرا پانھ کہ سوس یقیناً حضرت موسیٰ سببہ قومہ منزہ یعنی بنی اسرائیلو منزہ۔ بلکہ اوس موسیٰ علیہ السلامہ سہ پتر نوی سوسی لوگ مال و دولت زیادہ آسہ منکھہ پتر نس قومس پیچہ نظم کر سہ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ مانج زیادتی آس نس تھو کہ آس نس حبت خزانہ مالک عطا تر مت کہ تمن خزانہ ہنزہ کوزہ آسہ گو بر او ان = تھمرا او ان بڈس جماعتس، سم قوتہ وال آس۔ تمن زور ہوان اوس لاگن تمہ کوزہ تھمرا خیطرہ۔ وون بلکہ کوزہ ایشہ آسہ۔ پانے گھمرا زائن تم خزانہ سبت آسمن۔ یہ مختصر = غرور نر و تم تھمرا سبتہ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ بلکہ نس وون ہن قومس فمائس کر تھمرا طریقہ۔ اکی قارون خوش مہ گھمرا تھمرا کان مہ آس دُنْيَا کہ مال و دولت سبتہ۔ پتر پات اللہ تعالیٰ = محتو نہ ہند کر ان مال دُنْيَا سبت خوش گھمرا و تمن = تھمرا د تمن وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ بیہ ووس ہن قومس یہ تہ اللہ تعالیٰ ان مال و دولت عطا کور مت = محتوی آسہ مال و دولت سبتہ کر تہ حاصل آخر تک گرہ = یہ مال آس کر ان خرچ تھمرا رضا خیطرہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا یہ مہ مخر او تہ دُنْيَا منزہ ہن سوجتہ نس کھیند چیند = لباس خیطرہ ضرورت پیہ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ یہ کر تہ = احسان ہن کو کن نسبت تھمرا پانھ احسان کور اللہ تعالیٰ ان تہ نسبت

الْفُسَادِ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿۲۰﴾  
 قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۗ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ  
 أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرَ  
 جَمْعًا وَلَا يَسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿۲۱﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ  
 فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَيْلِيَّتْ لَنَا

وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿۲۰﴾  
 سیت یہ تیسویں پیغمبرہ سز مخالفت کرنے سیت۔ یہ اسم مالک واجبی حقوق ضائع کرنے سیت۔ إِنَّ اللَّهَ لَا  
 يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ہمز پاب اللہ تعالیٰ بخونہ ہند کران تباہی یشمن والین قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ  
 عِنْدِي یہ نو ذرت لوگ ونبہ قازون یہ مال و دولت ہخومہ حاصل ہدنت پنہ ہنہ سیت۔ ذالی  
 ہمز مدی سیت۔ یعنی مہ ہجہ تم تدبیر ٹکان ہمو سیت مال و دولت کماوند یوان ہخو۔ تم سیت ہخومہ یہ  
 سو زوی جمع کورنت۔ میان ٹھیلن ہخو ہجا۔ مہ ہخونہ ہتھ منز کانہ نہیں احسانہ و و تمنت نہ ہخو کانہ ہند  
 اتھ اندر کانہ ہتاہ یہ ہخومہ پنہ نیو اتھو جو کھنت زیونت۔ أَوَلَمْ يَعْلَمَنَّ اللَّهُ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ  
 الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرَ جَمْعًا اتھ اسمیس ونبہ نس ہخو اللہ تعالیٰ رد کران۔ فرماوان کہ  
 کیاہام قازون ہخند ہیشار لوکن ہندہ ذریعہ یہ کھہ بوز مرکہ ہمز پاب اللہ تعالیٰ ان ہجہ گالت اس بروٹھ  
 تم تم قوم ہم ہمسدہ خوتہ زیادہ سخت اس قوتہ کن یعنی نو کرو چا کروکن یہ اس زیادہ مال و دولت کن۔  
 ستوی نوت ہند نہ ہند ہکھہ کھہ تم کیا آئے ہلاک کرنے بلکہ تمن ایہ آخر نس اندر تہ ہر ڈھند و رای عذاب  
 کرنے وَلَا يَسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ تمن عثمانہ گازن نش یہ نہ سوال کرنے نہ پر ڈھند۔ تمن ایہ  
 پر ڈھنئے سزاونہ کیاہہ تمن اسم سزاع اس مستحق آسک علامت لہنت۔ دونے تمن ہشہ علیہ وقتہ سوال کرنے  
 ایہ سکو اسمہ ہمز رسوائی نہ خجالت غراونہ خیطرہ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ اکہ دوہ ہند اتفاق کہ  
 قازون در او پنہ نس قومس بروٹھ کن سخت آرائش نہ ٹیلٹھ کمرت شیرت نہ ہارت اکہ شانہ قَالَ الَّذِينَ

مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿۹۹﴾ وَقَالَ الَّذِينَ  
 أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا  
 وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿۱۰۰﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا  
 كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ  
 الْمُنْتَصِرِينَ ﴿۱۰۱﴾ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَسَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ  
 وَيَسْأَلُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ

يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا تمسکہ برادری منزہ بعضے لو کو سمہ ایمان آجھہ بہ آس دنیاز حائلان۔ تم گب  
 ونبہ یکتیت لئنا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ اسے کاش اسہ تے آسہائتھ مال تھہ قارونس عطا آؤ کرنہ ائکہ  
 لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ بیشک سوہ تھو نو ذ نصیبہ اول یہ ونہ سیت سپدہ نہ تھہ س ایمانس کانہہ خلل جتھہ پانھہ  
 ازتہ کاتیاہ مسلمان بین غیر مسلم قومن ہنز ترقی ووجت تہنا جتھہ کران تھن جتھہ لئی فخر آسان۔ وَقَالَ  
 الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا امن لو کن خدایہ سپدہ طرفہ علم و مہج  
 دولت دنہ آس امر تھو ڈوپ امن حریم تہ طالع لو کن کہ اسوس تھہ ہہ کتھ خدایہ سٹہ ثواب جتھہ بہتر  
 تہ نرت امہ مال دنیاء خو تہ نس عطا کرنہ بہ تھن لو کن سموا ایمان اون بہہ کر کتھہ رتہ عملہ وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا  
 الصَّابِرُونَ یہ ثواب جتھونہ کامل طور عطا یوان کرنہ مگر صبر کردونین۔ سم مال دنیاء کہ حرص و طمع  
 نہہ صبر کردون آسن فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ نس اول اسہ سو قارون بہہ تمسزہ کردہ چاہیہ زمینس  
 کل فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ نس آسن نہ نس کانہہ  
 جماعتھہ اسہ نس مدد کمرت ہیجہ ہاخذ نس درای۔ نہ ہیوک تم چن پان چاوت کانہہ ہمد مدد حاصل  
 کمرت حالہجہ تھس بہت آس ہڈ جماعت مگر کانہہ بہ پونس نہ برو تھہ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَسَّوْا مَكَانَهُ  
 بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ پگاہ تھس تمسکہ خشک واقعہ وجت دون تھو لو کو سم امہ برو تھہ تھن تھنا آس کران  
 قارونہ سپدہ مال و دولتک بہہ نس ہیونہ تک وَيَسْأَلُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ

كَوْلًا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَاؤُكُمْ كَائِنَهُ لَا يُفْلِحُ  
 الْكُفْرُونَ ﴿٥٦﴾ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا  
 يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾  
 مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا  
 يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٨﴾  
 إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَعَادِهِ


تجب ہجو کہ اللہ تعالیٰ ہجو رز قس اندر وسعت کران پنہ نیو بندو آندره تمن من یڑھان ہجو یہ ہجو  
 سوی تنگی کران رز قس اندر تمن من یڑھان ہجو۔ کَوْلًا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَاؤُكُمْ كَائِنَهُ  
 لَا يُفْلِحُ الْكُفْرُونَ ہر گاہے اللہ تعالیٰ آسہ پیٹھ بنت تھارہ ہا آسہ نہ نیہ ہاز مینس نل دالت مال دنیا  
 کہہ جڑس و طمہ مہو کہہ۔ تجب ہجو کہہ کافر زانہ کامیاب سپدن نہ۔ ہر گاہے کہنہہ کالاہ دنیا س منز عیش نہ  
 عزن مگر چولا کہ ہجو تمن تاوانس نہ شہر آس گر قدار سپدن۔ فلاح و کامیابی ہجو ہجو ص با ایمان ہدیہ  
 خیرہ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا یہ عالم آخرت  
 ہجو ثواب مقصود آسن بیان آو کر نہ۔ ثواب اللہ خیر و نہ سیت سو ہجو آسہ خاص مقرر کورست تمن  
 لوکن ہدیہ خیرہ ہمنہ دنیا س اندر مالی اعتبارہ نوؤن یڑھان ہجو نہ۔ یہ ہجو فساد تہائی نہ نر بادی  
 یڑھان وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ رت انجام نہ رت نتیجہ ہجو خدا نس کھوڑہ و نین ہدیہ خیرہ ہم ترک نوابین  
 سیت اقبال اوامر یہ آسن کران مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا قیامک دوہ نس اکھاہ خدایس ہجو  
 تنگی ہتہ یہ تہدیہ خیرہ ہجو سوی مزدوریوسہ تمہہ خودہ رث آسہ استحقاقہ خودہ زیادہ آسہ وَمَنْ جَاءَ  
 بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ نس اکھاہ نس ہجو تمہہ دوہہ ہدی  
 ہتہ یہ نس یہ نہ ہجو کاماہ کردہ نین کانسہ مزدور نہ سزاوہ مگر تمنی کامن ہنز ہم تم گروہن آسن زیادتی  
 وراى إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَعَادِهِ ہجو گروہ و شنو تکلیفات و اتاوانہ سیت

قُلْ رَبِّيَ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۱۰۴﴾ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿۱۰۵﴾ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۰۶﴾

سخت ہدیشان۔ مجھ اندر توہم پیوہ مجبور سہت ترک وطن کران۔ سمجھ مفاقت وجدانی ہند توہم سخت صدمہ ہتھو۔ توہم سہن تسلی سمجھ سمجھ سیت کہ بیشک ہم پروردگار ان توہم پیٹھ یار رسول اللہ قرآنی احکام ہند قلیل تہ تبلیغ کران فرض کور سواد اتاواہ توہم ضرور پنہ نس وطن اصلیس یعنی متحد شریض منز۔ تمہ ساتہ آہو تہہ آزاد تہ غالب۔ یہ آہو تہہ صاحب سلطنت قُلْ رَبِّيَ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ہم لو کہ توہم زانان مجھ غلطی پیٹھ تہ پاس مجھ زانان پزرس پیٹھ تمہن فرماو تہہ یار رسول اللہ کہ میں پروردگار مجھو پورہ زانان کہ تمہ آو تہہ طرفہ پوزدین تہ نوؤ ہدایت ہتھ۔ یہ مجھو سوی زانان کہ تمہ مجھو بتلانہ کمر ای اندر۔ تہمز دولت نبوت۔ مجھ محض خدایہ سزای مہربانی وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ توہم آہ نہ چند تہہ پیٹھ ہر جہہ برو تہہ کانہ امید کہ توہم کن کیا ایہ نازل کرنہ یہ عظیم الشان کتاب یعنی قرآن مجید۔ مگر سہز یہ کتاب نازل توہم پیٹھ محض خدایہ سزہ مہربانی سیت۔ نس مہ آہو تہہ مددگار بنان کافران ہندہ خیطرہ تہمز ان تمہ تائید کرنہ سیت۔ تہہ پاتہ از تان تہہ تمہ زوہر الگ زودہ تہہ پاتہ گروہ آہندہ تہ الگ روزن۔ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلَتْ إِلَيْكَ یہ بلکہ خدایہ سہر احکام توہم پیٹھ نازل سہ۔ ون مد این لہند حمہ تہہ کہ ہم لو کہ کیا رن توہم پتھ سواد کا نو تہہ وادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ تہہ زو زو بد ستوز لو کن پنہ نس پروردگارہ سہس دینس کن نادووان۔ یہ تہہ پاتہ از تام توہم مشرک سیت کانہ تعلق تھو وہ نہ تہہ پاتہ مہ تھاوو کانہ تعلق تمہن

## وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤﴾

سیت آئندہ ہے۔ یہ منہ سپد و شامل خبہ مٹر گن سیت۔ بلکہ جتھ پاٹ آز نام خبہ خبر کہ زبہ معصوم ہے پاک زودہ ہتھے پاٹ زودہ ہمیشہ پاک ہے معصوم وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ یہ منہ دو خبہ ناخذ انہس سیت یہ کانسہ معبودس لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کیازہ کانہ معبوداہ ہتھونہ نس وراى كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ پر جتھ چیزاہ ہتھو ہلاک گوہ وان تسبہ ذات پاکہ وراى۔ معصوم ہے ناؤد سپدن ہتھو دلیل سمہ کتھ ہنز کہ سو ہتھونہ قدیم اوسنت یے جتھ دلیل واجب الوجود نہ آہج۔ مستحق عبادت آسگ شرط ہتھو واجب الوجود آسن بلکہ نہ سو واجب الوجود ہتھو لہذا اویجہ نہ سو ہرگز مستحق عبادت آہتھ تمی ہتھو مضمون لالہ ثابت لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ حکومت جتھ جہنز سمگ کامل ظہور سپدہ قیامتگ دوہ۔ تمس گن ایو خبہ ساری وانہس و اتاوند۔ سارنی بیہ پنہ کمر ٹیک سزاوند۔ سمو آیا تو سیت ہتھو مطلب کافر ہے مٹر ک نامید کرن تمہہ در خواستہ زبہ نس تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندس خد نس منز پیش کران آس کہ خبہ پھیر تو سانبہ سی ونس گن۔ اصل ہتھو روی سگن یمن آیات کر یمن منز تمسی مٹر کن گن کہ ای مٹر کو خبہ ہتھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم در خواست کران پنہ نس ونس سیت موافقت کرہ ٹک۔ آتھہ منز سپد ونہ خبہ ہرگز کامیاب۔ مگر عادت ہتھو بلکہ کانسہ پنہ ڈکھ، بیزاری ہے طمہ ہتھو آسان تمہہ سانبہ ہتھونہ یوان نس گن روی سگن کرنہ۔ پلجہ جتھ تھہ یوان نس و اتاوند ہمیں گن لاہت۔ سگس ہتھو تمی طریقہ آنت کرنہ۔ پنہ نس محبوب خاص گن ونہتھ ہتھو نمرو تمین دشمن تھہ و اتاوند ہم یہ در خواست کران آس۔ کیازہ تم بلکہ اللہ تعالیٰ ان سو زمین لو کن ہوس ونس گن ناودنہ خیطرہ یہ تھہ پانٹھ ہتھو ممکن کہ تم کیاسپدن شوڈ باللہ پانہ مگر و مٹر گس گن مائیل۔



## سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 ۱ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا  
 يُفْتَنُونَ ۚ ۲ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ  
 الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ۚ ۳ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ  
 يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ ۴ مَنْ كَانَ  
 يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

اللہ اسمِ جمعِ حروفِ مقطعات میں ہند معنی زانہ پانہ خدا أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ بعضے مسلمان جمعِ کافر ان ہند یو تکلیفویت گاہر ان تہ بانہر ان۔ کیا تم لوکن چھا امانہ سمہ تم کیا یمن زیوہ سیت آزمائت آزما تہ ورا کی تراوت۔ یعنی تہ ہند تہ۔ بلکہ اسمہ قسمک امتحانات تہ آزما تہ بن ضرور تمین پیش وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ پتر پات اسمہ جمع ہتھوے واقعاتو سیت آزمائش سمر مڑ تمین لوکن تہ سم یمن برو تھہ جمع کڈر سمیت مسلمان برو تھمیں اتن اندر۔ تھہ اللہ تعالیٰ نرا وہ تمین لوکن ہند ایمان سم پتر زیوہ جمع ایمان کہ نس اندر بہ نرا وہ سو تمین لوکن ہند ایمان سم ایمان اندہ کس دعوائے اس منز پتر زیوہ جمع۔ چنانچہ سم لوکھ و تھہ وانچہ ایمان انان جمعہ تم جمعہ امتحان اندر ثابت روزان بلکہ ہتھو تھہ ایمان ہتھہ سپدان۔ دن سم لوک و تھہ کٹے جمعہ ہدان تم جمعہ امتحانہ وقتہ اسلام تراوان بہ کٹر س کن پھیر ان۔ اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سید عثمان جمعہ کر ان تم لوک سم پھہ کامہ جمعہ کر ان (شرک تہ نافرمانی، مسلمان تکلیف رسائی) تم کیاہ تمکن ذلت اسمہ ہتھہ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ یہ خیال کزن تھہ ہتھو سہماہ بے ہودہ تہ پھہ۔ تم کافر ان بہ ضرور امیک بدلہ ہند۔ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ



وَمَنْ جُهَدًا فَإِنَّمَا يَجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ  
 الْعَالَمِينَ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ  
 عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۗ  
 وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جُهَدَاكَ  
 لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ط إِلَى

وَهُوَ الشَّيْخُ الْعَلِيمُ نِس شخصس ہوا امید آسہ آخر نُس منز خدا نُس سیت ملاقات کر بیج تمسند گویہ نہ  
 ہتھیہ حادثا تو سیت پریشان سپدن بلکہ گویہ تمسز بیج تیاری کرن۔ خدا نُس سیت ملاقات کر تک وقت  
 ہتھی مقرر کرنہ آمت۔ سو وقت ہتھی ضرور ہند نُس منقوس پیٹھہ بند اول سمہ سیت ساری غم دور سپدن۔  
 سو ہتھی سوزوی بوزہوان سوزوی زلہوان۔ نُس ہتھی ہتھیونہ کانسہ چیز ہا شیدہ۔ نہ کانسہ تھہ نہ کانسہ گوم۔  
 نُس ہتھی سو توہیہ پر ہتھی رثہ تھہ نہ پر ہتھی رثہ کامہ ہند عوض نہ بدلہ۔ سمہ سیت ساری غم نہ ختمہ دور  
 سپدن وَمَنْ جُهَدًا فَإِنَّمَا يَجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ یہ گویہ تھلان یادہہ آس  
 نُس توہیہ محنتن نہ مشقن برداشت کر تک ترغیب ہوان چہر اتھہ اندر ہتھیونہ آسہ کانسہ مفادہا۔ بلکہ نُس  
 محنت ہتھی کران خدا یہ سہہ احکام بجانہ نُس اندر سو ہتھی محنت کران ہندہ پانچہ فائدہ خیطرہ۔ ورنہ ہنر پات  
 اللہ تعالیٰ ہتھی ساروی لو کو ہتھیہ بالکل بے نیاز۔ سو ہتھیونہ کانسہ کن محتاج وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
 الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ سہو لو کو ایمان اوان  
 یہہ کر کیے رثہ عملہ آس گز و ضرور مغفرت جہد کن گنہن یہہ ہمو تمین استحقاقہ خود زیادہ رت نہ زیادہ  
 بدلہ۔ تمین رٹن کائین ہند یہہ کران آس تم دنیاہ آس اندر وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا یہہ  
 کوہ آسہ حکم اناس ماس ہاجہ نسبت رت سلوک نہ احسان کر تک۔ سیت و نُس یہہ تھہ نہ سمہ وَإِنْ  
 جُهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ہر گاہ مول موج زور گرہے سو چیز میون  
 شریک ٹھہرونہ خیطرہ سمسہ س معبود آسٹس پیٹھہ رثہ ہتھیہ کسہی دلیل ہتھیہ نُس ہتھیہ رثہ ٹھہرہ مانگہ کنس

مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِئْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ<sup>۸</sup> وَالَّذِينَ آمَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ<sup>۹</sup> وَمِنَ  
النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ  
فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ  
لَيَقُولَنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْلَىٰ آللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ  
الْعَالَمِينَ<sup>۱۰</sup> وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ

خدا نہیں شریک ٹھہراو کہ اِلٰہِ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِئْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سے کن جتنی توبہ ساری رہجوع  
کرن ہے وہاں سن نہیں کرودہ تو توبہ خبر تمہہ ساری یہ توبہ کران آسودہ زنت یا بچھہ وَالَّذِينَ آمَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ توبہ آندرہ سمولو کو ایمان لون ہے رتہ عملہ کرکچہ تم  
واتادو کہ اسی ضرور نیکو کارن سیتہ جنس۔ تھے پاٹ سم لو کہ بچھہ کامہ کرن تمہن پیہ سزاوند۔ لہذا نہیں  
اکھاہ مالس ماجہ ہنز اطاعت مقدم تھاوہ خدایہ سب س اطاعت پیٹھہ نس ہے پیہ سزاوند یہ آس کریم جتھو  
نازل سہدنت حضرت سعد بن ابی وقاصہ سبہ حقہ۔ تمہن آس موج اسلامہ بچھہ پھیر نس پیٹھہ مجبور  
کران وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ یہ  
بچھہ لو کو آندرہ بعضے سم وہان بچھہ آسہ اون ایمان خدائس۔ تو پتہ ہر گاہ خدایہ سزہ وتہ اندر کانہہ تکلیف  
واتان جتھو کہ لو کن ہمدہ طرفہ تھے لو کن ہمدس تکلیف بچھہ زانان خدایہ سب عذاب ہیو۔ یعنی سیٹھاہ  
پریشان چھہ سہان وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُولَنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ توبہ ہر گاہ تمہدس پروردگارہ  
سبہ طرفہ مسلمانن کانہہ مدد او اتان جتھو تمہہ سادہ بچھہ زپان آسے توبہ سیتہ آس اَوْلَىٰ آللَّهُ بِأَعْلَمَ  
بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ کیاہ اللہ تعالیٰ جتھنا پور زان و ن تھے ساری یہ عالمہ کین لو کن ہمدین و کن  
منز جتھو وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اللہ تعالیٰ آس جتھو نر لان با ایمان ہند  
حال ہے۔ یہہ جتھس نر لان منافقن ہند حال ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَجِبُوا سَبِيلَنَا

الْمُتَفِقِينَ ۝۱۱ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا  
 سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ وَمَاهُمْ بِمُحْسِلِينَ مِنْ خَطِيئِهِمْ  
 مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝۱۲ وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَنْتَ لَا تَمَعُ  
 أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝۱۳  
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ  
 إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ۝۱۴  
 فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ۝۱۵

وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ یہ جھڑوہاں کافر با ایمان تہہ بخود نہیں اندر سناہ و تہہ۔ قیامتک دودہ ٹلو آس پائس پیٹھ  
 تہہ دہ بال تہ گناہ و ماہم بحیلین من خطیئہم من شئی ایتہم لکذبون حالہہ تم نکلن نہ ہرگز جہد یو گنا  
 ہو اندرہ اکھ زڑہ تہ تمہہ طریقہ سمہہ سیت تم تمو ٹھہو لٹہہ آزاد سہدن۔ تم جھہہ یہ بالکل اپڑو تہاں۔  
 وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَنْتَ لَا تَمَعُ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ تم نکلن ٹرور  
 قیامتک دودہ پنہ نمین گنہن ہند بور۔ یہ نکلن واریاہ بور پنہ نمین بورن سیت۔ سو گولو کن گمراہ کرہ نمین گنہن  
 ہند نور یہہہ تم نکلن ٹرور پر ژھنہ قیامتک دودہ تم نکلن سارنی گنہن ہند سمہہ تمہا نے ٹھہر لو ان آس تو پتہ پچھ  
 سزا دہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا یہ سو زلسہہ نوح  
 علیہ السلام پیٹھہر پنہ بس قومس نکلن۔ بس زود سو تم نکلن پنہ پنہ (۵۰) ہو کم آس ساس (سازن نون شمن)  
 و ہس تبلیغ کران توحیدس نکلن نادو دہاں۔ مگر تہ کمرت تہ لون نہ تمو ایمان بلکہ کوزکھ انکار تہ تکذیب  
 فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ اودہ رٹ تم سیلا بن تہ پھاٹون در حالہہہ تم آس بڑہ ظالم۔ فَأَنْجَيْنَاهُ  
 وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ بس ڈیت اسہ نجات حضرت نوحس یہہہ سم جہزہ ناوہ  
 اندر کھٹمت آس امہہ طوفانہ لٹہہ۔ یہہہ تھو اسہ سو واقع اکھ نشاناہ عبرتک عالمہ کین لو کن ہندہ ٹیٹہرہ

وَابْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ  
 خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۶﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ  
 دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ  
 تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا  
 عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ  
 تُرْجَعُونَ ﴿۱۷﴾ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أَمْرٌ مِنْ

سمن بھیر اسمہ دلچ خبر واژ تین تور فکر و ہیز مخالفت کر تک نتیجہ کیا، جھو آسان و ابراہیم اذ قال  
 لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ یہ سوز اسمہ حضرت ابراہیم پیغمبر بناوت بلکہ تمو فرمود پند بس قوم سمن  
 بت پرست آس ای قوم عبادت کمر و تہہ معبود پر حہ سز۔ یہ کھو ڈوئس شر کہ بھیر زود و جھو ذَلِكُمْ  
 خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ جھو ٹھہرہ خیطرہ ہست ہر گاہ توبہ زان جھو بخلاف شرک سوز جھو  
 بد طریقہ کیا زہہ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا تہہ جھوہ معبود بر حق  
 تراوت تہہ تلمین ہنز عبادت تہہ پرستش گرہ دن سمن عاجز تہہ نالائین جھوہ۔ یہ جھوہ تھہ متعلق پالے اپزہ تھہ  
 ٹھہر او ان کہ جھوہ سیت سپدہ اسمہ روزی روزگار س ترقی۔ یہ سوزوی جھو محض اپزہ کیا زہہ إِنَّ الَّذِينَ  
 تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا  
 لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سمن ہنز عبادت تہہ خدائس و رای کر ان چھوہ تم جھوہ ہرگز مالک ٹھہرہ علمہ  
 رزقک۔ تین آتھہ جھوہ رزقک کانسہ اختیار ی۔ بلکہ جھو ٹھہرہ روزیک مالک معبود بر حق۔ بس  
 ڈھانڈو تہہ تس بھیر ہنن روزی تہہ رزق بس رزقک مالک جھوہ۔ یہ بلکہ رزقک مالک جھو سوزی جھوہ  
 کمر و عبادت۔ یہ چونکہ از تام جھوہ تی رزق عطا کورنت لہذا کمر و جھوہ شکر گذاری۔ توبہ تہہ تہہ  
 ساری محس کن ہینہ کانسہ کن وائس ہنہ۔ سوزیہ توبہ ضرور شرک و کفر کرہ بس پیٹہ سزاء وَإِنْ تُكَذِّبُوا  
 فَقَدْ كَذَّبَ أَمْرٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ہر گاہ تہہ اپزہ روزیوہ تھہ کتھہ اندر کہ میون دعویٰ کیا چھو کہ

قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۱۵﴾  
 أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ  
 إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿۱۶﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ  
 فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ  
 النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۷﴾  
 يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿۱۸﴾

خدا پر سزا عبادت کرن بہت واجب کس شکر دین بہت لازم مرنہ پتہ بہت زندہ گواہن بہت حق نہ پوزیہ  
 نو کتھاو کہہ بہت نہ۔ بہت پات توبہ بردتہ بہت وارہو اکتہ پتہ نین پیغمبرن کتذیب نہ انکار کورمت امن  
 تھن۔ تین پیغمبرن تمیک کینہہ نقصانہ ووت نہ کیاہہ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ  
 پیغمبرس بہت نہ مگر صاف صاف پاتھ پیغام وادہ تان۔ زورہ ماراون۔ تسز کو م بہت۔ کس سپہ ساری  
 انبیاء تبلیغ کمرت کامہ نشہ سکتہ و ش تھے پات سپہس نو نہ سکتہ و ش۔ تھیدہ نہ مانہ تک ضرر بہت توبہ پانس  
 آسہ امیک کانہ ضرراہ بہت نہ اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ كَا كِیَاہ تم لو کہ چنا  
 وبتھان زہ اللہ تعالیٰ تھہ پاتھ بہت مخلوقن گوڑہ پیدہ کران۔ عدم محتہ نشہ بوجود انان۔ تو پتہ کر کیکہ سوی  
 بہت دوبارہ پیدہ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ بیشک یہ تھہ چھ اللہ تعالیٰ اس نش سینٹاہ سہل نہ آسان۔  
 بلکہ بہت ظاہرہ پات دوبارہ پیدہ کران گوڑہ پیدہ کرنہ خونہ زیادہ سہل۔ اگرچہ پروردگارس نشہ بہت  
 دوشوے چیز برابر عجیب تھہ بہت کہ سم لو کہ بہتہ گوڑہ پیدہ کر کس اقرار کران مگر دوبارہ پیدہ کر کس بہتہ  
 انکار کران قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ  
 الْآخِرَةَ تہہ فرماو کہہ یارسول اللہ اے لو کو تہہ بہتہ تونہ ساری زمینس اندر تو پتہ بہت تھہ تھہ پات  
 بہت اللہ تعالیٰ ان مخلوقات گوڑہ پیدہ کمر مت تھے پات کیاہ کہہ اللہ تعالیٰ تین دو سہہ پھرہ قیامتک دو سہہ  
 پیدہ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بیشک اللہ تعالیٰ بہتہ چیزس پیٹھہ قدر نہ وول۔ يُعَذِّبُ

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۲۲﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَكْفُرُونَ بِحَبْتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۲۳﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۲۴﴾ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ

مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ یہ دوبارہ پیدہ کمرت نئس خوش کرئس ئس عمرہ عذاب۔ نئس خوش کرئس ئس عمرہ رحم۔ ائھ تعذیب ورحم کرہ ئس منز آسہ نہ یہ کانسہ دخل کبازہ وَالَّذِينَ يُكْفَرُونَ ئهہ ساری ایو ئس ئن بھر نہ یہ نہ کانسہ ئن۔ اسہ تعذیبہ ئشہ چہہ عئطرہ ہئبئونہ ئهہ کانسہ تدبیر کمرت وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ چنانچہ ئهہ ہئبئون نہ خدا عاجز کمرت زئئس منز کھرت روزنہ سبت نہ اڑئھ آسمان کھسہ سبت وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ یہ ہئبئونہ توبہہ خدا ئس ورائی کانسہ سر پر ستاہ۔ نہ کانسہ مددگار اہ۔ لہذا ہئبئونہ ئهہ نہ چہہ تدبیرہ سبت عذابہ لہہ چہت نہ کانسہ ہندہ حمایہ سبت وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَكْفُرُونَ بِحَبْتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ یہ سمولو کو انکار کور اللہ تعالیٰ سندین آیاتن بالئصوص ئس سبت ملاقات کرہ ئس نہ ئس بردئھ کئہ استادہ سہد ئس ئے لوک کبہا سہدن قیامتگ دوہ میانہ رحمتہ ئشہ نا امید نا ئس وئس گوئھک تسلی کہ تم بھہ رحمتہ ئشہ عزوم یہہ بھو جہدی عئطرہ دگ نہ دودئکہ ان عذاب فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ حضرت ابراہیمہ سہہ امہہ دعظ وئصبتہ پتہ اوس نہ جہہہ قومگ جواب کئہہہ نہ مگر ای زہ پانہ وان لئگ تم وئہہ زہ یہ مارئون یا زائون نازس منز۔ چنانچہ کر کہ جہہہہ زالنک سلمانہ تیار مگر اللہ تعالیٰ ان ذبت تمئن ئمہہ نارہ ئشہہ نجات ان فی ذلک لآیات لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ بجز پات ائھہ واقئس منز جہہہہ واریاہہ لیلہ مئجدہ لوکن ہندہ عئطرہ

مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَوْ ثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ  
وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم  
مِّنْ نَّصِيرِينَ ﴿۲۹﴾ فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ  
إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۳۰﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ  
وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ

امہ واقعہ سیت بہتو ثابت سپدان اللہ تعالیٰ سید قادر آسن۔ حضرت ابراہیم سید پیغمبر آسن۔ مگر و  
شرک باطل آسن بیہ بہتو خدایہ سیدہ قدر تک نشانہ تمن لوکن ہند خیطرہ ہم پڑھ کران ہجرتہ وقال  
إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بیہ فرمود ابراہیم علیہ  
السلامن پنہ نس قومس و عظمس منزیرہ کھہ کھہ ہجرتہ خدائس ور آسے معبود بناوست بیہ جان پو تل ذنیاء  
چہ زندگی اندر پانہ وان محبت قائم تھاونہ خیطرہ ویا کہ کھہ لحاظ قائم تھاونہ خیطرہ۔ مگر بیہ روز وہ ذنیاء سی  
اندر ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا تو پتہ کمر و کھہ قیامتک  
دوہ اکہ آسنز مخالفت تہ انکار بیہ کمر و آزاؤین دوہو تہ لعنت وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّصِيرِينَ  
مگر تمہ سیت اندہ نہ کینہہ۔ ہر گاہ لے کھہ امہ بت پرستی لہہ ہتھ روز و کھہز جائے آسہ ہار جہنم توہہ آسن  
نہ سہ کھہ قسمہ مذکار فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ یس و عظم و نصیحت کمر تہ اُون نہ ایمان جہد تو من۔ فقط  
اُون ایمان تال کرنہ درای جہد باپہ تھرن۔ لوط علیہ السلامن وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ  
هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بیہ ابراہیم علیہ السلام تو کہ ایمان اندہ نشہ مایوس سپہ۔ دو کھہ وون تراوہ بوہن  
وطن۔ بو کرہ ہجرت پنہ نس خدائس کن۔ یس نو و اتناویم توت گروہ۔ بیٹک سو بہتو زبردست تہ جہد  
دول۔ سو کرہ میان حفاظت تہ رہ کھہ۔ بیہ کریم سو ایک بھل عطا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ  
امہ ہجرت پتہ کور آسہ تمن عطا فرزند اسماعیل علیہ السلامس علاوہ اسحق علیہ السلام بیہ کھہ فرزند یعقوب

وَآتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ  
 الصَّالِحِينَ ﴿۲۶﴾ وَلَوْ طَآئِفٌ لِّقَوْمِهِ إِتَّاتُوا  
 الْفَاحِشَةَ مِمَّا سَبَقُكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ ﴿۲۷﴾  
 أَتَيْتُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۗ وَتَأْتُونَ  
 فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا  
 اسْتِنَابَعَدَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۲۸﴾ قَالَ رَبِّ

علیہ السلام وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ ۗ بِه تھود اُسے جاری جہد سی ذرئہ جس سے  
 خاندان اُس اندر بیوت سے کتاب۔ یعنی توریث، انجیل، زبور، قرآن مجید۔ وَآتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا  
 بہ کمر اُسے تین مزدور سے ثواب عطا دنیاء سی اندر وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۗ بہ آسن تم  
 آختر اُس اندر بہ نیک، ہمد و اُمد رہے وَلَوْ طَآئِفٌ لِّقَوْمِهِ ۗ سوز اُسے پیغمبر بناوت لوط علیہ السلام اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ  
 اِتَّكُمْ لَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ بِه تمو پندہ بس قومس دُوب بیشک خبہ ۗ حجورہ سیشاہ سخت پیچھے کوم کران  
 مَسَبَقُكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ ۗ قومہ بروئٹھ ۗ ٹھنہ یرٹھ پیچھے کوم کمر مژ عالمہ کیولو کو جنوتہ انسانو  
 اُمد رہے کانسہ بہ اِتَّكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۗ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ۗ کیاہ خبہ  
 ۗ حجورہ زمانہ ترلوت مُردن بے قوت شمولی پورہ کرنے خیطرہ نزدیک بیان۔ بہ حجورہ اُمدہ علاوہ ذہ پکہ  
 ونین کونان۔ بہ حجورہ پندہ نین مجلس اندر پیچھے کامہ کران۔ شراب چوان۔ ستیارہ دلیان۔ لغتہ سے کیون  
 لاگان۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اسْتِنَابَعَدَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ۗ بس اوس  
 نہ کانسہ جوابہ جہدہ قومہ طرفہ گمراہی زہ دو پک اُلو اُسے پیچھے خدایہ سمد عذاب ۗ حجورے خبہ بہ کتھ ذہ بس  
 اندر پوزونہ دنیو اُمد رہے کہ خدا ۗ حجورے کھن پیٹھہ بیزار۔ بہ کیا حجورہ خبہ جہدہ طرفہ پیغمبر قَالَ رَبِّ  
 اَصْرِقْ عَلَى الْقَوْمِ الْمَفْسِدِينَ ۗ لوط علیہ السلام کور دُعائے میاں پروردگارہ مہہ کریاری سے  
 ہدو سمن مفسد کو کن پیٹھہ سوز بہن عذاب، تمی سیت گالٹھ۔ تو پتہ کور اللہ تعالیٰ اُن جہدہ دُعائے قبول کرنے پتہ



انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿۴۱﴾ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا  
 اِبْرٰهِيْمَ بِالْبَشْرٰى لَقَالُوْا اِنَّا مُهْلِكُوْا اَهْلَ هٰذِهِ  
 الْقَرْيَةِ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿۴۲﴾ قَالَ اِنَّ فِيْهَا  
 لَوْطًا قَالَ وَاَنْحُنُّ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا لَنُنَجِّيْكَ وَاَهْلَكَ  
 اِلَّا امْرَاَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿۴۳﴾ وَلَمَّا اَنَّ جَاءَتْ  
 رُسُلُنَا لُوْطًا سِىِّئَ بِهٖمْ وَضَاقَ بِهٖمْ ذُرْعًا وَقَالُوْا

عذراچ خبر نہ غیظ رہ ملائک مقرر۔ تمہیں ملائک تھاون بیا کہ کام تہ غیب کہ ابراہیم علیہ السلام فرماؤد تہ  
 بشارت اسحق علیہ السلام سیدہ تولد سپد چ۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرٰهِيْمَ بِالْبَشْرٰى چنانچہ تو پتہ علیہ  
 آئے تم ملک سم اسمہ سوزمت آس، ابراہیم علیہ السلام کن فرزندہ سبز بشارت و خوشخبری تہ۔  
 قَالَوْا اِنَّا مُهْلِكُوْا اَهْلَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ کنھن اندر دن تمویہ تہ تہ  
 تمہن کہ بیشک اُس جھہ ہلاک کر دن سمہ شرک لو کہ (شہر سدومک) کیا زہ اسمہ شہرک سم لو کہ جھہ  
 سخت ظالم تہ شریر قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ابراہیم علیہ السلام دو کچھ اتھہ شہر س منزے میون باپ  
 تھہ لوط علیہ السلام جھہ قَالَوْا وَاَنْحُنُّ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا تمویلو دو کچھ اسمہ جھہ ہر خبر جہز اُس تھہ  
 منز جھہ لَنُنَجِّيْكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ اُس بچاؤ کہ ضرور تم ہیہ تھہ اہل و  
 عیال جہزہ آجیہ وراکی۔ سمو اسمہ مت زوزت عذائس گر قمار سپدہ و نیو اندرہ وَلَمَّا اَنَّ جَاءَتْ رُسُلُنَا  
 لُوْطًا سِىِّئَ بِهٖمْ وَضَاقَ بِهٖمْ ذُرْعًا اوہ علیہ سان سوزنہ آست ملک وات لوط علیہ السلام زھہ تم  
 سپد تھہ ہ اندہ سیت ناخوش تہ دل تنگ۔ کیا زہ تم ملک آس سیٹھاہ کو بصورت لو کنھن ہنزہ شگہ۔ تمہن  
 ملکن علیہ معلوم سپد کہ سم سپد سانہ ہنہ سبہ تہ سخت پریشان وَقَالُوْا لَآ تَحْفَظْ وَاَنَّ حٰزِنًا اِنَّا

لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا  
 أُمَّرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۳۳﴾ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ  
 هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۳۴﴾  
 وَلَقَدْ كَرَّمْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۳۵﴾ وَإِلَىٰ  
 مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ  
 ارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۳۶﴾

مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أُمَّرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ تمہو ملکو ذویک تجہ منہ ہز کھو ژو۔ تجہ منہ  
 ہز دکا نہ نم۔ اُس ہجہ انسان۔ اُس ہجہ غذا یک ملک۔ اُس ہجہ ہلاک کرن۔ سمہ شہرک لو کہ اُس  
 ہجہ اووہ تجہ ہہ تجہ عیال تمہ غذا بہ ہجہ ہنہزہ آہنہ ورا کی۔ سو اُسہ سمہ روزت غذا اُس گر فدا سپہ  
 و نیو اندرہ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اُس ہجہ آسما ہجہ  
 طرفہ سمہ شہرہ کین لو کن پیئہ عذاب نازل کرہ ون۔ تمہ پیئہ کاٹن ہند سزا سمہ تم کران اُس۔ تو  
 پتہ کور اُسہ تجہ شہرک ہجہ۔ پیئہ تراو کی اُسہ ہجہ زودک پاٹہ۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ  
 يَعْقِلُونَ ہز پاٹ تھاو اُسہ سمہ شہرک کینہہ عن نشانہ باقی تمہ لو کن ہجہہ عبر ہہ خطرہ سم کاٹل اُس۔  
 چنانچہ منگ لو کہ اُس شہر شامہ کس سفرس اندر اوہ ون ہہ گروہ ون امن ویران گاٹن شہرن و چمان۔  
 تمہ اندر ہم عتہہ وال اُس تمہ اُس ہہ و ہجت نیب کیوان۔ کھو ژت اُس ایمان اتان۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ  
 أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ  
 ہہ سوز اُسہ مدینہ کین لو کن کن نوبی تجہہ شعیب علیہ السلام پیئہ ہر۔ اُس دوپک تموای میانہ قومہ  
 عبادت ہہ پرستش کمر و معبود برتہہ سزہ ہہ شرک ہجہ زود ہجہ۔ ہہ کھو ژو قیامتہ کس دوہس۔ ہہ منہ  
 پھیلاووز میس منہ تہای۔ حقوق اللہ ہہ حقوق العبادتہ کمر و ضایع۔ کفر و شرک ہجہ کم ٹولہ ہجہ، کم مینہ  
 ہجہ زود ہجہ۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ اُس زون تمو

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ  
 جُثَمِينَ ﴿۳۲﴾ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسْكِئِهِمْ  
 وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ  
 وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿۳۳﴾ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَدْ  
 جَاءَهُمُ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا  
 سَابِقِينَ ﴿۳۴﴾ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ  
 حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا

شعیب علیہ السلام پر یور۔ یہ زور نہ تم بنا فرمایا ہے۔ ادرث تم سخت نکل۔ پس آس تم صبح  
 پنہ نین نزن منزہ کن پتہ مومت۔ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسْكِئِهِمْ یہ گال اسہ قوم  
 عادہ قوم ثمود۔ ہنر پات قومہ اسہ وارہ نظر دیہ ان ای مکہ کیوں کو جہدہ یو پتہ و تہ منہم گامڑ و لریو جانہ  
 منزہ۔ علیہ نجرہ ملک شامس کن سفر کر ان وجہہ جہدہ جانی ہند حال۔ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ  
 فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ جہز حالت آس ہے کہ شیطان اوس جہز ن پنہ کامن  
 زینت دیو مت۔ ورنہ آس تم ہشیار۔ مجنون تہ بے عقل آس نہ۔ مگر تمو ہنہ پنہ عقلہ کام وَقَارُونَ  
 وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ یہ گول اسہ قارون فرعون تہ ہمان جہدہ نکر تہ نا فرمانی سبہ وَقَدْ جَاءَهُمُ مُوسَىٰ  
 بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ حالانکہ من تر شون ہشہ آیوہ موسیٰ علیہ السلام  
 نہ دلیلہ ہتہ مگر تمو کر سر کشی زمینس اندر تو پتہ جینہ تم سانہ عذابہ ہشہ ثرت فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ  
 فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ  
 مَنْ أَخْرَقْنَا اسہ کور سمو پازو کبیرہ پر ہتہ اکہاہ گرفتار پنہ پنہ ہر کہ عذابہ سبت۔ چنانچہ تمو اندرہ  
 بعضین پیٹہ سوز اسہ تیز واؤ۔ تمہ اندرہ ہتھو مراد قوم عاد۔ بعضے رث خوفناک کر یکہ تمو اندرہ ہتھو مراد

بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَفْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ  
 وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۴۰﴾ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا  
 مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ إِتَّخَذَتْ بِعَبَثٍ  
 إِنَّا وَهْنِ الْبُيُوتِ لَبَيْتٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۴۱﴾  
 إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ  
 الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۴۲﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا

قوم ٹھوڑے بعضے نے اپنے والد سے نہیں تعلق ہے اندر وہ ٹھوڑے اور قارون۔ بعضے پہاڑوں سے دریائے منہ سے  
 اندر وہ ٹھوڑے اور فرعون سے ہمان وہاں کہ انا لیس ظلمہم و لکن کانو انفسہم یظلمون اللہ تعالیٰ  
 اوس نہ ٹیٹھ کہ سو کیا کرے ہا تمین پیٹھ ظلم مگر تم اس شرارت سے فساد کرنے سے پان پاس ظلم کران مَثَلُ  
 الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بِعَبَثٍ مَثَلُ كَمَنْ لَوْ كُنْ هِنْزِ بِحَمْسِ  
 خدائے وراے ہے مخلوق زان جن دوست سے مددگار اس زلزلہ سنز مَثَلُ نَسْ پند خیالہ اکھ گراہ جھو بتوان  
 وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتٌ الْعَنْكَبُوتِ حالہ جھو پند پند جھو نہ شکھہ ساروی گرو اندر وہ جھو سست  
 سے ضعیف گرہ زلزلہ گرو۔ جھو پان زلزلہ جھو پند خیالہ پناج جائے پان زال تیار کران نَس سے حقیقت  
 اندر کانہ پناہ بیان جھو دت۔ پند پانہ جھو مشرک معبودان باطلن پند خیالہ پند پناج جائے زانان  
 واقعہ سے حقیقت سنز جھو تم کسی لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ہر گاہ تم حقیقت حال زانہ ن تلمہ کرہ ن نہ جھو  
 کچہ کامہ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ہنر پان اللہ تعالیٰ جھو زانان جن سارنی  
 چیزان ہندہ ضعف و سستی ہنر حقیقت سن سن ہنر پر ستنش کران جھو تم معبود بر حس وراے  
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سو جھو پانہ سارسی پیٹھ غالب۔ سو جھو سینہاہ حمہ دول۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ  
 نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ چوہہ اس جھو سارنی چیزان ہنر حقیقت پور زانان۔ لہذا جھو اس مَثَلِ بیان کران  
 لوکن فخرہ تارہ نہ طیرہ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ سمہ مَثَلِ نزن نہ فخرہ مگر عالمی حَقِّقُ اللَّهُ

يَعْقِلَهَا إِلَّا الْعِلْمُونَ ﴿۴۳﴾ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۴۴﴾  
 أُتِلُّ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ  
 إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ  
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿۴۵﴾ وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا  
 بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اللہ تعالیٰ ان کو آسمان و زمین پیدا کر کے صحیح منسلکہ خیرہ ہمیک  
 تین اقرار ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ بیشک اتمہ منہ جہرہ دلیلہ باایمان منہہ خیرہ  
 جہدس معبود برحق ہے مستحق عبادت آئس پیٹہ۔ اُتِلُّ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ  
 الصَّلَاةَ اے پیغمبر چونکہ تجہ مجہہ پیغمبر برحق لہذا پڑھئے سو کتاب یوسہ توہہ کن وجہہ پائٹھے  
 سوزنہ آہ۔ بہر تھاوہ نماز برپا۔ تھہ بے لاکھہ جنہز متابعت کمر تھہ پابندی سان نماز برپا تھاوان یعنی قولی  
 تبلیغ نہ کمر و قرآن مجید پڑنہ سیت، فعلی تبلیغ نہ کمر و نماز پڑنہ سیتے۔ دینچہ کامہ ہاونو کہ پانہ تمہہ کامہ کمر تھہ  
 إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بے شک نماز چھہ پتہ رہان پیچہ کامیو نہ ناجائز حرکتونہہ۔ یعنی  
 بزبان حال چھہ نمازوان کہ ئس معبود برحقہ سُدُوت تعظیم ژہ جھگ کران، تسبہہ خیرہ ہجہہ ژہ  
 لون نماز نہ کلہ زمینس پٹہ تھاوان پیچہ کامہ کرنہ سیتے تسز بے تعظییس کرن چھہ سیٹھاہ نازیبا نہ ناروا تھہ  
 پائٹھے یہہ رژہ کامہ نمازورائے جھہ تمہہ گہہ یاد خدا کران تمن پٹہ نہ گواہہ پابندی کرن وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ  
 بیہ جھہ خدایہ سند یاد سیٹھاہ بو ژ چیز اہ فضیلت اول چیز اہ لہذا گواہہ تھہ پٹہ نہ پابندی کرن وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا  
 تَصْنَعُونَ اللہ تعالیٰ چھہ زانان نہ سوروی یہہ تودہ کران چھوہ لہذا اژہہ کوم کریو تودہ لیوہ مزدور،  
 خیر کریو نہ خیرئ، پیچہ کریو نہ بھجئے۔ وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ یہہ مہ آہوای  
 مسلمانو بحث کران اہل کتابن سیتے، مگر یہہ طریقہ تمذیہ سان۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ مگر نہ

بِالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَاحِدٌ  
 وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۰﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ  
 آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَ  
 مَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿۱۱﴾ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ  
 مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذْ أُرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿۱۲﴾  
 بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ

تمن سیتے ہم تمواندرہ ظلم سے زیادتی کرن۔ تمن و نوجواب تمھ شوبکھ = تیکھ۔ تمھ جھنہ کانہ خرچ  
 وَتُلُوْا امَّا بِالَّذِي اَنْزَلَ اِلَيْنَا وَالَّذِي اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ وَاللّٰهُ وَاحِدٌ سبھ مہذب طریقہ گوئی ہے  
 کہ نے آسو تمن دنان کہ اسہ کمر پڑھ تھ کتابہ نہ سہ اسہ کن نازل آئیہ کرنہ بیہ تھ کتابہ نہ سہ تو بہ کن  
 نازل آئیہ کرنہ بیہ جھوہ نے یہ تھ تسلیم کران کہ سون معبود = تھم معبود جھ گئے۔ وَنَحْنُ لَهُ  
 مُسْلِمُونَ اس چھ تھمدی فرمانبردار۔ جھمدی کھمس گردن دارن۔ کیا زہ ایمانک دارودار جھ تمہ  
 کتابہ ہندہ خدا یہ سبہ طرفہ منزل آس پینہ۔ سانیہ کتابہ ہند منزل من اللہ آسن جھ ثابت تھنز کتابہ  
 سیتے =۔ لہذا ہزہ تو بہ قرآن مجیدس ایمان ان = پڑھ کرن وَكَذَلِكَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ تھے پانھ  
 کز اسہ تو بہ پینہ نازل یہ کتاب یار سول اللہ تھ پانھے برو تھمن پیغمبرن پینہ اسہ کتابہ نازل کرہ فَالَّذِينَ  
 آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ پس یمن لو کن اسہ تو بہ برو تھ کتاب عطا کر تم چھ اتھ جھزہ کتابہ  
 پڑھ کران وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ سموکہ کیولو کو اندرہ = چھ کینہہ ملکت مزاج تھ کتابہ پڑھ  
 کران وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ دلائل واضح سہ نہ پتہ جھنہ انکار کران سانین آیاتن مگر ضدی  
 کافر وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذْ أُرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ تھہ آسودہ نہ سہ  
 کتابہ برو تھ کانہ کتابہ ہر تھ ہیکان نہ آسودہ تھ سو کتاب لیکھ ہیکان پتہ اتھ سیتے۔ ہر گاہ = اسہ ہاسیلہ  
 ورس آس ضرور شک = تھہ کرکے گنجائش دشمن بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا

بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿۲۹﴾ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ  
 إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۳۰﴾ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا  
 عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ  
 يُؤْمِنُونَ ﴿۳۱﴾ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ بَأْسَ السَّمَوَاتِ  
 وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۳۲﴾

يَجْعَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ بلکہ ہنھ یہ کتاب بذات خود باوجودیکہ یہ ہنھ کئی کتاب چونکہ امیک پر ہنھ  
 حصہ ہنھ مجزہ تمہ اعتبار ہنھ یہ کتاب دریاہ واضح دلیلہ تمن لوکن ہندین دلن اندر، بمن علم عطا او  
 کرنہ، مگر باوجود ظہور اعجاز ہنھ بمن سائین آیاتن نہ دلیلن انکار کران مگر ضدی لو کہہ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ  
 عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ یہ ہنھ ہم لو کہہ باوجود اینکہ قرآن مجید چھ بوڈ مجزہ فرمان محض عنادہ کن کہ سمس  
 پیغمبرس پیٹھ کونہ آی نازل کرنہ نھندس پروردگارہ سندھ طرفہ تم مجزہ بمن ہنراس فرمائش ہنھ  
 کران قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ نھہ فرماو کہہ یارسول اللہ مجزہ ہنھ مگر خدا نھس اتھہ،  
 جہندسی اختیارس منز، بو ہنھس نہ مگرن پانھ خدا یہ سیدہ غذا بہ نشہ بیم کردون۔ یعنی بہ ہنھس پیغمبر، پنہ  
 بس پیغمبر آس پیٹھ چھ مہ نشہ دریاہ دلیلہ۔ بذ دلیل ہنھ یہ قرآن مجید أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ  
 الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ کیاہ نھندہ خاطرہ چھنا کافی یہ بوڈ مجزہ کہ اسہ کر نازل توہہ ہنھ یہ بذ کتاب بوہ  
 تمن پیٹھ پر نہ ہنھ یوان۔ امہ خود کہہ بوڈ مجزہ ہنھ سم ڈھانڈان إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ  
 يُؤْمِنُونَ پزپاٹ اتھہ کتابہ منز ہنھ بذ رحمت یہہ بوڈ وعظ با ایمان لوکن ہندہ خاطرہ بذ رحمت گیہ اتھہ  
 منز ہنھ احکامن ہنز تعلیم، اتھہ منز نفی نفع ہنھ بذ نصحت گیہ اتھہ منز ہنھ ترغیب وترہیب یہ تھہ ہنھ  
 بمن مجزہ منز بمن پزہ ہایہ نھیمت زانتھہ ایمان اُن نہ پزھہ کرن۔ ہر گادون ٹوہہ ہم ایمان اُن نہ قُلْ  
 كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا نھہ فرماو کہہ سملہ یارسول اللہ آخری جواب۔ ادہ سائتہ مان ٹومیون اللہ  
 تعالیٰ ہنھ بس گواہ۔ میہ منز نہ توہہ منز میانس پیغمبر آس پیٹھ يَعْلَمُ بَأْسَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سہ ہنھ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ  
 وَلِيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝۴۳ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ  
 وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ۝۴۴ يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ  
 فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۴۵  
 يُعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِنِّي فَاعِبُدُونِ ۝۴۶

زمانہ سے سُوروی یہ آسمان سے زمین منزہ ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ لِيَُبَدِّلَهُمُ الْعَذَابَ مِنْ لَدُنْهُمْ لَعْنًا كَثِيرًا كَمَا كَانُوا يُعْمَلُونَ ایم لو کہ  
 اپن کسمن پیٹھ یقین جھہ کران معبودان باطلن چھہ پڑھہ کران معبود برحقہ سزن کسمن جھہ انکار کران  
 تے لو کہ جھہ تاوان زد وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ یہ جھہ سم کافر لو کہ توہہ عذاب جلد واقع سپد تک  
 مطالبہ کران سے عذاب نہ یہ نو کہ جھہ س نبوتس پیٹھ شک سے جہہ کران وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ  
 الْعَذَابُ وَلِيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ہر گاہ نے عذاب خاطرہ وقت مقرر کرنہ آسہ ہا آنت یمن آسہ ہا  
 عذاب ڈٹٹھ کنہ او تم سے عذاب پیہ واتھہ کسمن جھہ سے مھہ تھہ پانٹھہ کہ تم ٹینہ نے نہ تمیک من  
 يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ایم چھہ توہہ جھہ عذاب جلد تک مطالبہ کران  
 حالانکہ عذابک گرہ ہار جنم جھہ کسمن کافرن پر تھہ طرفہ احاطہ کر تھہ سے زبہ کسمن کسمن سے ملنہ ساتہ یومہ  
 يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یہ دوہہ عذاب کسمن ولہ  
 ہیرہ ٹونہ کلو پیٹھ کسے سے کھوہ زونونے کسے سے فرماو جھہ اللہ تعالیٰ اے کافر وڑ ہو کسمن جھہ کاسمن ہند مزہ  
 یہ خبے دنیا س اندر کران اسوہ يُعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِنِّي فَاعِبُدُونِ ای میانہ  
 با ایمان بندو، میلہ سم کافر لو کہ توہہ ہر دن حق اختیار کرنہ خیلرہ یہ احکام شریعت خجائندہ خاطرہ ایذا چھہ  
 دو ان۔ پڑے پانٹھے نیون زمین چھہ کشادہ سے کھول۔ ہر گاہ سے روز تھہ جھہ عبادت جھوہ نہ ہیکان کر تھہ  
 رشتہ دارن سے دوستن سے دلچ مفارقت دشوار سپدہ سو مفارقت جھہ اکہ نہ اکہ ڈوہہ سپدہ ڈے کمازہ۔



كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿۵۱﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كُنُوزُهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرُفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿۵۲﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۵۳﴾ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْسِبُ رِزْقَهَا ۗ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۵۴﴾ وَلَئِن

کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ پر مجھ شخص جس پر مجھ کہ تہ کہ دُوبہ مرہ ٹک مزہ ضرور ڈنن تمہ سارہ گویہ بہر حال جدائی تُوپتہ ہجھوہ توبہ سارنہ اسی نشہ وائن نافرمان آبتہ آسہ نشہ وائس ہجھوہ سزاکھیک خطرہ۔ ہر گاہ یہ ترک و ظن سائہ رضامندی خاطرہ کرو تہہ منزہ سپہ یو تہہ سائس و عدس مستحق نہ سزاوار۔ نہ وعدہ گویہ ہے کہہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كُنُوزُهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرُفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ بھولو کو ایمان آون بیہ کر کیہ رتہ عملہ رتہ عملو اندرہ گو ترک و ظن کرن مگر کہ شہرہ نشہ ہجرت کرن تمن و نواس جای جنتہ کین بالا خان اندر، بھوتل جو بیہ پکان آسن تمنی جنتن اندر روزن تم ہمیشہ۔ کیاہ رتہ مزور یاہ چھہ بیہ جنت کام کرہ و نین ہندہ خاطرہ۔ الْكَذِبِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ یم گئے تھے سمو دنیا ہس اندر اکھ تلخین پیٹہ، یکن منز ہجرت جنتی نہ محسوب چھہ، صبر کمر بیہ آس پنہس پروردگار س پیٹہ اعتماد نہ توکل کران۔ ہر گاہ کانسہ دوسوہ سپہہ کہ ہجرت کر تہہ بین شہرن منز گوہ حتہ کیاہ کھمو جو مو، تم کرن نظر وارہ ہتہ پیٹہ کہہ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْسِبُ رِزْقَهَا ۗ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ واریاہ جانور چھہ تم، یم نہ تکتہ تھوان چھہ پن روزی اللہ جایہ۔ اللہ تعالیٰ ای ہتہ تمن مقدر رزق عطا کران۔ توبہ ہے نہ ہتہ کی مقدر رزق وائہ نادان۔ ارہ بیتہ آسہ تہہ نہ سبتہ۔ لہذا نہہ کرو تہہ امیک دوسوہ بلکہ کرو خدا ہس پیٹہ یور بھروسہ۔ نہ ہتہ یقیناً بھروسہ کرنس سزاوار کیاہہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ نہ ہتہ سُوروی نوزہ ون، سُوروی زانہ ون۔ ہتہ پاتھہ ہتہ سارنہ سارنہ مستحق اندر سینہاہ کامل لہذا ہس کامل الصفات ہتہ نہ ہتہ بھروسہ کرنس قابل وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ

سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَشَجَرَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرَ  
 لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿۲۱﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ  
 مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۲۲﴾ وَلَئِنْ  
 سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ  
 مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۲۳﴾

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَشَجَرَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ یہ ہر گاہ تمہ سے تمہیں کافران پر ڈھونڈ  
 آسمان سے زمین کی جھڑپ کورسٹ پادہ، یہ کم لوگ کامہ آفتاب سے زون، ضرور دین تم اللہ تعالیٰ سے من تمہیں  
 اقرار کرت کت چھ ہت پھر ان ژلان تم، تمہیں عبادت کرنے لگے۔ یعنی توحید فی التوہین ماننے کونہ  
 مہر توحید فی الالوہیت مانان۔ ہتھ پانٹھ خالق اللہ تعالیٰ، ہتھ پانٹھ رازق ہے سہ۔ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ  
 يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ چنانچہ اللہ تعالیٰ ای ہتھ رزقس اندر وسعت  
 کران۔ تمہیں پڑھان ہتھ تمہ پنے نیوہند اندرہ۔ یہ ہتھ سہ رزقس اندر تنگی کران۔ تمہیں پڑھان ہتھ  
 تمہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ سی ہتھ پر ہتھ چیز چ ہتھ خبر وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ  
 الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ یہ ہر گاہ تمہ پر ڈھونڈن آسمانہ طرفہ کم تروروزود، تو پتہ  
 کورن زندہ تمہ رورودہ سیتے زمین تمہ کہ مرنہ پتہ یعنی سر ہنز کوزن ہو کھنہ پتہ۔ ضرور دن امیک جواب  
 ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تروروزود، سہی ہتھ زمینس مُردہ گورہ ہتھ یہ زندہ کران یعنی شکک گورہنہ پتہ سر ہنز  
 کران قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ تمہ دہا حند معبود بر حقس۔ ایڑہ ہنہ ہے کور تمواقرار مگر سم  
 کو کھہ ہتھ مانان ہے تسلیم کران، ہتھ ہتھ امہ خود ہیا کہ تمہ کہ تموا اندرہ ہتھ اکثر تمہ نہ زانن تگان ہتھ  
 کینہہ ہے نہ امہ مٹو کہ کہ عقل کیا ہتھ کھنہ بلکہ ہتھ تم عقلہ کام ہوان تم ہتھ اتھ منز غور کران کہ یہ  
 یہ کامہ ہتھ خدا ہی پوت کران ہتھ، تمہ ورا ہی شوہیا یہ کامہ ہنز عبادت کرن۔ غور نہ کرنے مٹو کہ ہتھ  
 تمہ ہتھ بدیہی ہے ظاہر چیز خفی ہے ہتھ شیدہ روزان۔ نہ غور نہ کر ٹک وجہ ہتھ ہم چھ دنیا کین شغلن

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ  
 لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۱۳﴾ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَا  
 اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ؕ فَلَمَّا نَجَّيْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ  
 يُشْرِكُونَ ﴿۱۴﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَيُكْفِرُوا بِهِمْ  
 وَيَعْلَمُونَ ﴿۱۵﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِّنَّا وَيَتَخَفَتِ النَّاسُ  
 مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿۱۶﴾

اندر حالانکہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌ وَلَعِبٌ بے جھنڈے یہ دنیا ہی زندگی کو لے کر اور اے کینہہ یہ  
 وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ اصل زندگی کی عالم آخرت کی زندگی۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ہر گاہ کج  
 خبر آسما تمیں ملیہ کرہ ہن نہ ناپائیدار زندگی اختیار۔ مگر وقت چھہ تم توحید الوبیگ یہ اقرار کران۔ چنانچہ  
 فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ایسزہ غیر مستقل مزاجی ہنزیہا کہ مثال چھہ، تم  
 علیہ سمندر س منز جہازان پیٹھہ سوار سپد تھہ سفر کران چھہ تو پتہ چھہ ناوجہز واوہ آولیس منزیوان، تہہ  
 ساتہ چھہ تم خدایکی پیٹھہ ہر اعتقاد تھاوت نجات منکان، مگر دنیا چن کاہن اندر روزنہ سبہ چھہ حال  
 ہوشان۔ چنانچہ فَلَمَّا نَجَّيْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ غمہ پتہ ملیہ سہ نجات دست ٹھس کن واہ  
 ناوان چھہ، ائی چھہ بے تس شریک ٹھس او ان لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ چھہ کفران نعمت کرن تم تھہ  
 نعمت سہ تم سہ عطا کر وَلِيَكْفُرُوا بِهِمْ وَيَعْلَمُونَ بے چھہ کینہہ کالاہ دنیا س اندر تمس ملن۔  
 مگر بروٹھہ ٹھن سپد چھہ پائے معلوم آسہ کفران نعمت انجام یمن چھہ توحید قبول کرنہ چھہ اکھ مانع  
 دنیا س اندر بوڈن دیوم حیلہ چھہ یہ خیال کہ ہر گاہ اس توحید قبول کرو ملیہ مازن آسہ لو کہ چھہ  
 شرس منزون نہ آسہ سہ نے أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِّنَّا وَيَتَخَفَتِ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ کیا تم لو کو بیٹے  
 کہ کیو کافر وہ چھنا کہ آسہ ہجو ٹھہد شہ حرمہ دول شہراہ، امن و مالک شہراہ ٹھن اندی کے ہم لو کہ چھہ  
 تم چھہ یوان رہتھہ نہ نہ مارنہ، ہم چھہ اتھہ شرس منز روز تھہ محفوظ اڑھہ مہربانی کر تھہ أَفَبِالْبَاطِلِ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ  
لَمَّا جَاءَهُ الْبَيِّنَاتُ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ  
جَاهِدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٩﴾

يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَ اللَّهُ بِكَفَرُونَ ﴿٢٨﴾ حق سے بڑی بات واضح آجھہ چھایم آپزین معبودان پڑھ کر ان بے چھہ اللہ  
تعالیٰ سزنا نعمون بے قدری سے انکار کران معبود برحقس بھہ شریک ٹھہراوان شریک بھہ ان  
گو سخت ٹھہراوان نعمت کرن۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ  
بِیِّنَاتٍ اَکھاہ بھہ پڑھ ظالم سے نا انصاف ٹھہراوان شخصہ سبہ ٹھہراوان ایم آپزینو زود معبود برحقس پھہ بلا دلیل تس  
شریک ٹھہراوان سیتہ یازان اہل پڑھہ یلہ سوس بھہ واثر بلا دلیل اَلَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ  
کیاہ جنم بھہ نار و زنجی جای تھن کافران ہندہ خاطرہ۔ واقعی بھہ بوڑسز ابڈین ٹھہراوان من ہندہ خاطرہ نار جنم  
وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٩﴾ سمولو کو ساہہ دینہ خاطرہ  
کوشش کر تکلیف برداشت کوز تھن ہاؤوا اس ضرور پھہ قرچہ و تہ بھہ و تھہ پڑ پائٹھہ اللہ تعالیٰ بھہ سیت  
سیت ٹیکو کازن خلوصہ والین بدن دنیا س اندرہ آخر تس اندرہ



## سُورَةُ الرَّحْمٰنِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 اَلَمْ نَغْلِبِ الرُّومَ ۙ ﴿۱﴾ فِیْ اَدْنٰی الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ  
 عَلَیْهِمْ سَیَغْلِبُوْنَ ۙ ﴿۲﴾ فِیْۤ اَبْضِعِ سِنِیْنَ ۙ ؕ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ  
 قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ۙ وَیَوْمَیْذِ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ ﴿۳﴾  
 بِنَصْرِ اللّٰهِ یَنْصُرُ مَنْ یَّشَآءُ ۙ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ ۙ ﴿۴﴾  
 وَعَدَ اللّٰهُ لَا یُخْلِِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا

اللہ ہم چھ حروف مقطعات۔ من بعد معنی زانیہ خدا غلبت الروم ﴿۱﴾ فی اذنی الارض رومک  
 نصاریٰ سپہ اکس قریب جایہ پیٹھے مغلوب ہمیں تم جنگ آس کران یوسہ جای فارسہ خود ملک عربس  
 کھ تله ہتھ تھہ جایہ ہتھہ تاوازرعات بہ بصرئی یم شامس منزہ شرمہ ہجہ حکومت رومس ماتحت آسنہ منوہ کھ  
 ہجہ رومس کس زمینس سیت شامل۔ تھہ جایہ سپہ اہل روم یعنی نصاریٰ فارسہ کین لوکن مقابلہ ہم آتش  
 پرست آس، مغلوب۔ ہمہ سیت عربک مشرک خوش سپہ۔ یکمازہ تم آس نصاریٰ ان اہل کتاب آسنہ  
 منوہ مسلمانہ نے سیت زانال۔ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَلَیْهِمْ سَیَغْلِبُوْنَ ﴿۲﴾ فی ابضیع سینین پتہ  
 مغلوب سپہ نہ پتہ سپہ ن تم رومی جلدے ضرور غالب اہل فارس پیٹھے دو کس مقابلس اندر کھیون درمن  
 تام۔ تریوور ہو پیٹھے نون تام لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ یہ مغلوب سپہ نہ غالب سپہ نہ ہتھ  
 خدایہ سندس اختیارس منز۔ مغلوب سپہ نہ برو تھہ تہ اوس اختیار خدایہ سے تہ خدایہ کسی اتھہ ہتھہ اختیار  
 گوڈہ تہ تہ پتہ تہ وَیَوْمَیْذِ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿۳﴾ بِنَصْرِ اللّٰهِ تمہ روہہ سپہ ن خوش بالیمان اللہ تعالیٰ  
 سپہ تمہ یاری تہ عدہ سیت بِنَصْرِ مَنْ یَّشَآءُ سہ ہتھہ یاری کران کس یرحمان ہتھہ کس  
 وَهُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ سہ ہتھہ سیماہ غالب سیماہ رحم کرہ ان وَعَدَ اللّٰهُ لَا یُخْلِِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ؕ

يَعْلَمُونَ ۖ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ  
 الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ ۗ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ  
 إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ ۗ أَوَلَمْ يَسِيرُوا  
 فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ

وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ مجھ خدا یہ سب سے وعدہ۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے بدل کر ان سے نہیں  
 وعدہ مگر اکثر لوگ مجھ سے وعدہ تصرفات الہیہ زمانہ۔ تم مجھ سے صرف ظاہری اسبابوں کو دیکھتے قیاس آرائی  
 کران يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ۔ ہم مجھ سے زمانہ صرف دنیا پر  
 زندگی ہند ظاہری حال مگر تم مجھ سے آخرت سے نظر بالکل بے خبر۔ تم مجھ سے معلوم آخرت سے منہ کیا ہے  
 جہنم حال۔ کیا ہے تم مجھ سے کا نہ اندیشہ تم چیز ہند سب سے چیز و سب سے تم سے عذاب اس کے قدر پہن۔  
 مثلاً نظر شرک سے تا فرمائی خدا اور رسول نہ مجھ سے تم فخر تم چیز ہند سب سے تم نجات ہند ہا۔ سہ کو  
 ایمان سے فرمانبرداری۔ جہنمہ نظر مجھ سے فقط دنیا ہی کن أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ  
 وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى۔ کیا ہے آخرت سے صحیح سے حق اپنے دلیلہ بوز تمہ چھنا ہم  
 لوگ پانس سے غور سے فکر کران کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ زمین سے آسمان سے یہ سمن دون منہ باگ مجھ  
 پیدا مگر سب سے حکمت سے پیچھے۔ یہ کہ مضمین سہ سے خاطرہ سہ مدت گویا ختم سے آسہ قیامت سے وہ ہند  
 لوگ خدا سے بروٹھ کن پیش منہ کرنا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ۔ لیکن اکثر لوگ  
 جہنم قیامت سے نس پروردگار سے سب سے ملاقات سے نہ نس انکار سے کران۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ  
 فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ کیا ہے تم لوگ چھنا ہم سے پیچھے اور وہ نور پھیر سے سب۔  
 کیا ہے تم چھنا گرو منہ پھر دراست۔ ہر گاہ تم اور وہ نور پھیرہ ہن تیلہ و چھ ہن تم کہ کیا ہے جہنم سے نہت انجام  
 قیامت سے کین تم مہر ہن ہند ہم بروٹھ آس۔ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قَبُولًا وَأَنَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا

كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ  
 مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ  
 وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ⑩ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ  
 أَسَاءُوا وَالسُّوَاىِٕ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ⑪  
 اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ⑫ وَيَوْمَ  
 تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ⑬ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ  
 مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاؤُا وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ⑭

اكثر مٹا عمر وھا و جاء تھم رسلھم بالبیّنات جنز حالت آس کہ تم آس محمدہ خود زیادہ قوتس بہ  
 طاقتس اندر بیہ اوس تموزمین لوگت بیہ لوسکھ نہ بیول ووتھ کرہ جایہ لد تھہ یہندہ خود زیادہ آباد  
 کورنت۔ تمن بعہ بہ دوت پیغمبر جہد سائہ طرفہ ن منجزات بیتہ۔ مگر تمومون نہ کینہہ بہ توپتہ کیو تمو  
 تمہ نافرمانی ہند سزا فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ بہ ہند ہاند ہرگز کہ اللہ تعالیٰ  
 کیاہ کرہ ہا تمن ظلم مگر تم اس مکر و شر کہ سیت پیغمبرن انکار کر نہ سیت پان پانس ظلم کران تھہ كَانَ  
 عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا وَالسُّوَاىِٕ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ توپتہ سپد تمن بچھ کامہ  
 کرہ دینن بہ پیغمبرن انکار کرہ دینن ہند انجام بہ بچھی کیاہہ تموزان اپز خدا یہ سند آیات بیہ آس تم  
 آیاتن ٹھنہہ کران اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللہ تعالیٰ بچھ مخلوقاتن گودہ بہ  
 پیدہ کران۔ تمہ پتہ کرکچہ سے بیہ دوبارہ پیدہ تمہ پتہ ایوئہہ کس کن و اتاوانہ حساب و کتابہ خاطرہ  
 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ بیہ سمہ دوہہ قیامت قائم سپدہ ناامید بہ حیران سپدن تمہ  
 دوہہ کافر بہ نافرمان کانہہ تمہ بچھ نہ تم کر تھہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاؤُا  
 وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ آسنہ بیہ تمن پتہ نیو شرکیو اندرہ تمن تم عبادتس اندر خدا کس

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِئِدُنَّ يَتَفَرَّقُونَ ﴿۱۳﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ  
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿۱۴﴾  
 وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ  
 فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحَضَّرُونَ ﴿۱۵﴾ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ  
 تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿۱۶﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ  
 وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿۱۷﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ  
 الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ

شریک ٹھہراوان آس کا نہ ہے شفاعت کرتے ہو گا وہ نادر۔ تم پہلے تمہارے وقت پانہ پنہ نین شریک (یعنی  
 میں تم شریک خدا زمان آس) مگر وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِئِدُنَّ يَتَفَرَّقُونَ یہ سب دہنہ قیامت  
 قائم سپہ سبہ دہنہ سپہن لوکھ الگ الگ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ  
 يُحْبَرُونَ سمولو کو ایمان لون بیہ کر کیم رتہ عملہ تم آس جنہ کس بائس منز سینہا خوش فرحت دس درس  
 اندر وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحَضَّرُونَ یہ  
 سمو خدائس پا خدا لہ سب کس گن آس اس انکار کو بیہ زلجھ اُپڑ سان آیات بیہ آخرتس اندر اسے سبت  
 ملاقات کرہ کس کس سن تم عذابس گرفتار کرنہ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ  
 بلہ جہ ایمان و عمل صالحک فضیلت معلوم سپہ کس کر دجہ بیہ پاکی یاد خدا بیہ ساتہ تودہ شام کران چھوہ  
 بیہ سبہ ساتہ تودہ صبح کران چھوہ۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کیازہ کس شوغن ساری  
 تعریف یم کرنہ یوان چھہ آسان نہ زمین اندر وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ یہ کر دجہ ٹھہندی یاد  
 زہجس ہجس حصس اندر۔ بیہ سبہ ساتہ تودہ پیشہ کس وقتس منز داخل چھوہ سپہان۔ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ  
 الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ سہ معبود بر حق چھہ جان دارس کڈان بے جانس زوہر مثلاً لطفہ



مَوْتَهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿۱۶﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ  
 تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿۱۷﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ  
 لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۸﴾  
 وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ  
 وَالْوَالِدَاتُ إِذَا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ﴿۱۹﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ  
 مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي

بشیر انسان، نھولہ منزہ جانورس۔ بیہ ہٹھ بے جانس کڈان جاندارس بشیر۔ مثلاً لطفس انسانس بشیر  
 نھولس جانورس بشیر۔ وَبَعَثْنَا الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ بیہ ہٹھ سوی زمینس زندہ  
 تہ ہنز و شاداب کران تمجہ نرنہ پتہ یعنی خشک گودھ پتہ۔ کھٹھ پانٹھ بیہ تھہ تہ قیامتک دوہ قبر و منزہ ہبہ  
 کڈنہ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ معبود بدو حقتہ بند بو قدرت کبہ  
 نشانو اندر ہٹھ کہ تھہ کرنوہ پیدہ میوہ تو پتہ چھوہ تھہ انسان ہٹھ زمینس پینہ ہجھ کر نہ ہٹھ پھیران۔  
 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ بیہ  
 ہجھہ تھدی قدرت کبہ نشانو اندرہ ای زہ پیدہ کرین تھہ ہٹھ خطرہ تو ہی منزہ تھنزہ زمانہ ہٹھ تھہ قرار تو  
 تمن بشیر۔ بیہ تروون توہہ دون ہاژان منزہ محبت، شفقت تہ ہمدردی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
 يَتَفَكَّرُونَ۔ ہز پات اتھہ منزہ ہجھہ ہڈ ہڈ نشانہ غور و فخر کرہ و نمین ہندہ خاطرہ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَالِدَاتُ إِذَا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ۔ کبہ نشانو اندرہ ہٹھ آسمان و  
 زمینک پیدہ کرن۔ بیہ تھنزہ زیوہ یعنی لغت تہ تھدی ہڈ ہڈ ہڈ رنگ مختلف آسن۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
 لِلْعَالَمِينَ۔ ہز پات اتھہ منزہ ہجھہ ہڈ ہڈ نشانہ زامن و امین تہ عالمین ہندہ خاطرہ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ

ذَٰلِكَ لَايَتْلِقُ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿۳۳﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ  
خَوَافًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ  
بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۳۴﴾  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ  
دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذْ أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿۳۵﴾ وَلَهُ مَن فِي  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَنِينٌ ﴿۳۶﴾ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ

بِالْأَنْبِيَاءِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاءَ لَكُمْ مِنْ فَضْلِهِ  
زیادہ۔ یہ دوہرہ ہے جہدِ ثنائی جہدِ فضل یعنی رزقِ تلاش کزن لای فی ذلک لایات لقوم  
یسمعون پڑپاٹ اتھ منزہجہ بڈ نشانہ توجہ سان یوزن والین ہندہ خیطرہ و من آیتہ یریکم البرق  
خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحی بہ الارض بعد موتہا یہ جہدِ قدرتہ کیونشانہ  
اندرو کہ سہ جہدِ توبہ بیم کرنے خاطرہ یہ امید دنہ خاطرہ وزلمہ ہوان یہ آسمانہ طرفہ زود تراوتھ  
موجس یعنی خشک کاجس زمینس زندہ سرسبز و شاداب کران لای فی ذلک لایات لقوم یعقلون پڑ  
پاٹ اتھ منزہ جہدِ قدرتہ بڈ نشانہ عقلہ کام ہینہ والین ہندہ خاطرہ۔ و من آیتہ ان تقوم السماء  
والارض بامره یہ جہدِ جہدِ یو قدرتہ کیونشانہ اندرو کہ آسمانہ زمین جہدِ قائم جہدِ حکمہ تہ ارادہ  
سیت توبہ جتوہ اکس خاص مقرر کرنہ آجس و قس تان زندگی بسر کرت زمینس اندر دفن کرنہ یوان۔  
ثم اذا دعاکم دعوا من الارض اذا انتم تخرجون تو پتہ بلہ سہ قیامتک دودہ توبہ اکہ خاص قسمک آلو  
دیہ الی غیر وجہ ساری قبر و منزہ ولہ من فی السموات والارض کل لہ قنینون یم آسمانس تہ  
زمینس منزہ مخلوق جہدِ تم ساری جہدِ جہدِ مملوک۔ ساری جہدِ جہدِ حکمس تابع تہ فرمانبردار۔ اہہ  
اندرو سپد ثابت کہ۔ وهو الذی یبدؤ الخلق ثم یعیدها وهو اھون علیہ سہ پروردگار گوسوی یم  
مخلوقات گوڈہ پیدہ کر تو پتہ کر کچھ سہ یہ دوبارہ پیدہ قیامتک دودہ۔ تمس لیش جہدِ دوبارہ یہ پیدہ کزن زیادہ

الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۗ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ  
 فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲۷﴾ ضَرْبَ لَكُمْ  
 مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۗ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
 مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَآرِزِقِكُمْ فَانتُم فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ  
 كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۲۸﴾  
 بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ فَمَنْ يَهْدِي

آسان قدرت بشریہ کہ اعتبارہ۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اس بخند حمد صفت ہے  
 خودشان اس برابر ہے اس ہو محمد کا نہ ہے آسمان ہے زمین اندر وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کسی چھ غلبہ  
 دول قادر مطلق حمد دول ضَرْبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ اللہ تعالیٰ ان کو بیان تو بہ شرک  
 مذموم ہے باطل اس فخر ہمارے خاطرہ ہنوزے اکہ مثالا اکہ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
 مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَآرِزِقِكُمْ فَانتُم فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ سو مثال گئی ہے کہ وارہ  
 کرو چہ طور کہ کیا چہ چھوہ برابر مالک مند قسمہ شریک تھے ماس اندر اس اسی تو بہ عطا کو زمت بخند۔  
 چہ ہے چہ غلام آسہ ہن تھے ماس اندر برابر مالک۔ چہ آسہ ہو کھوڑان تمن غلامن تھے ماس منز  
 تصرف کر اس اندر۔ چھ پانچ چہ پانچ وان اکہ شریک میں شریک نہ ہو کھوڑان چھوہ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ  
 الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ چھے پانچ چھ اس ویشہ ناو تھے بیان کران جن آیات تمن لوکن ہندہ خاطرہ  
 تمن عقل چھ یعنی چہ بلکہ نہ چہ حقہ غلامن مملوگن ہند شریک اسن برداشت کران چھوہ خدا یہ سند  
 مملوک کیا زہ چھو کہ چہ شریک زانان یہ بخند بوڈ ظلم بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ  
 بلکہ کر سمو ظالمو مند صحیح دلیلہ ورا ی پنہ نین خیالات فہدین ہے نفسانی خواہش ہنز بیروی فَمَنْ  
 يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ مَسَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ اِپزس اصرار کر نہ سبہ و تھ راورہ اس تہہ اکھاہ بیکہ و تھ ہے  
 ہدایت کر تھ وَمَا لَهُمْ مِّنْ شُعُورٍ مِّنْ كُرْهِنَ يَلِدُ عَذَابٍ يَّيِّسٍ كَرِهَتْ سَاہ بیکہ نہ کانہ تمن مند قسمہ

مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصِيرِينَ ﴿۶۹﴾ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ  
 لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا  
 تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ  
 النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۷۰﴾ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا  
 الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۷۱﴾ مِنَ الَّذِينَ قَرَعُوا  
 دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيعَاءَ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿۷۲﴾

ہدایت نہ مدد کرتے۔ لہذا چہ پر تھے اس کو زور نہس یوان وہ نہ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا تھے سہ  
 پر تھے باطل دینہ نظر الگ۔ تو پتہ کر تھے بنی زرخ دین حقس کن فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا  
 تھے کہ متابعت نہ بیروی تھے قابلیتس چھ قابلیتس پنیے اللہ تعالیٰ ان ساری انسان پیدہ کر مت چھ۔  
 مطلب ایک چھ کہ اللہ تعالیٰ ان چھ پر تھے شخصہ پیدہ کور مت پر تھے اس چھن استعد او عطا کور مت  
 کہ ہر گاہ سہ پرتھے بوزن پرتھے، فکرہ ترن پرتھے، سہ بیجہ بوزن اس بیجہ فخرہ تر تھے۔ تھے متابعت کرن گیہ  
 کہ تھے استعد اوس نہ قابلیتس ہیہ کام سہ چھ منگان چھ تمہہ موجب کرہ عمل لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ  
 خدایہ سبس اتھے پیدہ کر جس چیزس، تھے پنیے تم ساری انسان پادہ کر مت چھ گومہ نہ تغیر و تبدیل  
 کزن ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ہیہ چھ شیخ حکم و تھے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مگر اکثر لوکھ چھ نہ  
 بوجہ عدم تدبیر زمانہ تر منو کہ چھ تمیک اجاع کران مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ  
 وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ای لو کو چھ کر و رجوع اس خدایس کن ہیہ کھو ژو اس۔ تھندس  
 مخالفتس نہ مخالفتس کس عذابس ہیہ کر و دین اسلام قبول تو پتہ تھا و برپا نماز پابندی سان ہیہ مد آہو  
 مشر کو اندرہ مِنَ الَّذِينَ قَرَعُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيعَاءَ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ہیہ منہ آہو تھو  
 مشر کو اندرہ سمو پھلہ کر و دینس پتہ نس نہ کیکھ واریاہ جماژاک رث اکھ و ت آپزہ نہ باطل و تھے واریاہ  
 سمو تر او پز و تھے آپزہ نہ باطل و تے تراو کیہ ای گو پتہ نس دینس چھلہ کرن اک رث اکھ و تھے، بے رث

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَاؤُهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا  
 آذَاهُمْ مِنْهُ رَحِمَهُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۝ لِيَكْفُرُوا  
 بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتُّوا قَسُوفٌ تَعْلَمُونَ ۝ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا  
 فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ۝ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا  
 بِهَا وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَمْأَقْتُمُ أَيُّدِيَهُمْ إِذَا هُمْ يَفِئْتُونَ ۝

یہاں تکہ دتھ ائی سیت کیہ واریاہ جماڑ۔ اگر پڑہ وتہ پیٹھ روزہ من سلیہ آسہا لئی جماعت۔ باوجود آنہہ یسہ  
 سارے وتہ چھ باطل تہ ایزہ توہہ بٹھ جمل ونادائی کن تمواندرہ پر بٹھ اکھاہ پتہ پتہ وتہ پیٹھ ٹریگان۔  
 خیال کران کہ بہ پنٹس صحیح وتہ پیٹھ حالانکہ یہ ام سہ خیال بٹھ بالکل غلط۔ یسہ وتھ بٹھ توحید بچ  
 وتھ۔ بٹھ وتہ کن اس تمن نادوان چھ عام طور بٹھ تمن لوگن ہمدہ حال و قالہ سیت ثابت سپدان کہ  
 یو ہے بٹھ دین حق۔ کیا زہ اضطرار کہ وتہ بٹھ تم تہ اتھ دینس تسلیم کران۔ یہ اندرہ ثابت بٹھ  
 سپدان کہ واقعی بٹھ یو ہے دین فطرت۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بٹھ فرماوان **وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ**  
**دَعَاؤُهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَاهُمْ مِنْهُ رَحِمَهُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ** سلیہ لوگن کانہ سختیہ  
 واتان بٹھ تمہ سادہ بٹھ بیقرار سپد تھ آلو دوان پنہ نسے حقیقی پروردگار س تس کن رجوع کر تھ تو پتہ  
 یلہ سہ تمن پنہ رحمتک مزہ چھ ہوان سو سختی دور کرنہ سیت ائی بٹھ تمواندرہ اکھ جماعت پنہ نس  
 پروردگار س بیہ شرک اتان **لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ** بٹھ کفر ان نعمت کران تھ نفیس یوسہ اسہ تمن عطا  
 کرے یہ **فَتَمَتُّوا قَسُوفٌ تَعْلَمُونَ** ہوا تمواندرہ کہنہہ کالہہ **قَسُوفٌ تَعْلَمُونَ** برو نہ پن زانو پائے امیک مزہ ام  
**أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ** کنہ اسہ چھ تمن پیٹھ کانہ دلیلاہ کانہ کتابہ نازل  
 کر مڑ۔ سوی کیاہ بٹھ تمن دپان شرک بٹھ تہ کامہ کرو **وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا** یلہ اس لوگن پنہ  
 مہربانی ور رحمتک مزہ بٹھ ہوان تمہ سیت چھ تم خوش گودھان۔ تمہ سبہ چھ **فَتَمَتُّوا قَسُوفٌ تَعْلَمُونَ** منز بوڈ تھ شرک  
 کامہ کران **وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَمْأَقْتُمُ أَيُّدِيَهُمْ** تو پتہ ہر گاہ تمن واتان بٹھ کانہ سختیہ تمن پنہ

أَوْلَمِيرَوَانَ اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ مُّؤْمِنُونَ ﴿۱۵﴾ فَإِنَّ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَ  
الْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ  
اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۶﴾ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِيَرْبُؤَ  
فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ

کامین ہندہ شامتہ سمہ جہندہ اتھ آمڑہ چھ آسان اذاهو یقینتون لقی چھ تم نامید سپدان اولم  
رؤوان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر کیاہ تم چھنا چھان کہ پزپاٹ الله تعالی ای ہنھ رزقس  
اندر وسعت کران نس یشھان چھ۔ بیہ ہنھ سنی تنگی کران رزقس اندر نس یشھان ہنھ نس انگری  
ذالك لآيات لقوم مؤمنون بے شک اتھ منزہ چھ بڈبڈ نشانہ خدایہ سندہ ہنھ رکب نہ کن آسک  
باایمان ہندہ خاطرہ فات ذالقربی حقہ و المسکین و ابن السبیل پس یلہ توحید چودیلوسیت  
معلوم سپد کہ رزق تنگی نہ وسعت ہنھ خدایہ سی اتھ اہمہ سیت ہز بیاکھ تھ ثابت کہ نخل کرن ہنھ  
سیٹھہ پچھ کیاہ اہمہ سیت مقدس اندر زیادتی بیحد نہ سپد لہذا چھ نخل کرن بے فائدہ اے مسلمانو  
نہہ نہ آہو بخل کران بلکہ آہو قرابتہ والین واتاوان تہند حق بیہ مستغنی بیہ مسافرن ذلک  
خیر للذین یریدون وجہ اللہ و اولیک ہم المفلحون ای ہنھ بہتر تھن لوکن ہندہ خیطرہ ایم  
ژھانڈان چھ رضای خدایہ چھ تے لوکھ رشکارہ کامیاب۔ وما آتیتم من ربا لیربؤا فی اموال  
الناس فلایربؤ عند اللہ بیہ نس چیز نہہ دنیا خاطرہ نہ خرچ کران چھوہیمہ غرضہ کہ نہ چیز دلہ  
لوکن ہندس ماس اندر توپہ سمہ سادہ تھن نہ چیز واپس کرنگ وقت دلہ تمہ سادہ واتہ اہمہ ہنھ نہ چیز  
زت نہ زیادہ سپد ہنھ پانھ دنیوی رسون اندر عام طور کرنہ ہنھ یوان اتھ ہینہ دس محمد اللہ اس  
ہنھ کا نہ زیادتی سپدان کیاہہ خدایس نشہ ہنھ نہ مال و اتان نہ ہنھ نہ زیادہ سپدان۔ نسنہ تہندہ رضا  
خاطرہ آہہ ونہ آمت۔ چونکہ اتھ ہینہ دس منزہنھ خدایہ سبہہ رضای کا نہ نیت آسان لہذا چھ نہ بیہ

كُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿۴۹﴾ اللَّهُ الَّذِي  
 خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعِيدِكُمْ ثُمَّ يُعْيِيكُمْ هَلْ مِنْ  
 شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّنْ شَيْءٌ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا  
 يُشْرِكُونَ ﴿۵۰﴾ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَبَتْنَا أَيُّدِي  
 النَّاسِ لِيَذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا أَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۵۱﴾  
 قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ

پہنچے وہ درگاہ اندر قبول سپدان نہ بخند اتمہ منز کینہہ زیادتی سپدان وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ فَكُلُوا كُرِيدُونَ  
 وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ مگر نئس رقم نہہ دو ان چھوہ خدایہ سبہہ خاطرہ زکوة ہش چھہ منز  
 ژھانڈان چھوہ نہہ خدایہ سدی رضا امہ قسمک کوکھ چھہ خدایس نشہ جمع کر تھہ ہن دہمت مال نہہ  
 راوان زیادہ کران اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعِيدِكُمْ ثُمَّ يُعْيِيكُمْ معبود بر حق بخند نہ  
 ذات پاک ہم نہہ پیدہ کروہ تو پتہ کور نوہ رزق عطا تو پتہ چھوہ سے ماران تو پتہ کروہ سے بیہ زندہ قیامک  
 دوہ نہ بخند امہ قسمک ڈرتہ دول هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّنْ شَيْءٌ توہ و نتو کیاہ  
 نہہ یو شرکیو اندرہ پتہ چھا کا نہہ پتہ ہس سمو کامیو اندرہ کا نہہ کاما چھہ کر تھہ ہیگان سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا  
 يُشْرِكُونَ پس سپد ثابت کہ نہہ بخند منزہ پتہ پاک بیہ بلند تر بر تر۔ تمہ ساری شر کہ نشہ ہس شرک تم  
 لو کہ تس گن لاگان چھہ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَبَتْنَا أَيُّدِي النَّاسِ لِيَذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
 عَمِلُوا أَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شرک و نا فرمانی ہند اثر چھہ تھہ خراب کہ ظاہر سہز تہای قحط تہ و باء بیہ  
 طوفان ٹھسکی اندرہ تری اندرہ یعنی ساری دنیا اس اندر لوگ ہنز و پچھہ عملوسیت چھہ اللہ تعالیٰ تمہ  
 مزہ ژہتاوہ پہنچن یعنی کامن ہندیہ سمو کرہ ذلہہ تم پائس ہین۔ سمو پچھہ کامیو نشہ روزن پتہ۔  
 ہر گاہ سمن مشرک اتھہ اندر کا نہہ شک بخند۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ

مِنْ قَبْلِ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿۳۲﴾ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ  
 الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ  
 يُصَدِّعُونَ ﴿۳۳﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا  
 فَلَا نَفْسِهِمْ يُنْهَدُونَ ﴿۳۴﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
 الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿۳۵﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ  
 أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ

مِنْ قَبْلِ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿۳۲﴾ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ ﴿۳۳﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسِهِمْ يُنْهَدُونَ ﴿۳۴﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿۳۵﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ

مِنْ قَبْلِ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿۳۲﴾ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ ﴿۳۳﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسِهِمْ يُنْهَدُونَ ﴿۳۴﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿۳۵﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ

مِنْ قَبْلِ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿۳۲﴾ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ ﴿۳۳﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسِهِمْ يُنْهَدُونَ ﴿۳۴﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿۳۵﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ





مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِي إِذَا هُوَ يُسْتَبْشِرُونَ ﴿۳۸﴾ وَإِنْ  
 كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿۳۹﴾  
 فَانظُرْ إِلَىٰ إِثْرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا  
 إِنَّ ذَلِكَ لَمُنجِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۴۰﴾ وَلَئِنْ  
 أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا الظُّلُمَاتِ مِنْ بَعْدِهَا يُكْفَرُونَ ﴿۴۱﴾ فَإِنَّكَ  
 لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا مَدِيرِينَ ﴿۴۲﴾

ہمداندرہ تمن، تمن نشہ نہ و اتلان یرحان ہنہ آبی ہنہ تم خوش گروہان نہ شادیانہ کران۔ وَإِنْ  
 کَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ حالانہ تم آس بقیانہ رود کہ ینہ ہر دنگھ بالکل  
 نامید نہ مایوس سپہ مت فَانظُرْ إِلَىٰ إِثْرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُنجِي  
 الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ پس وچھ ڈہ خدایہ سبہ رحمتک آثار نہ نتیجہ تھہ پانٹھ ہنہ پنہ رحمتہ  
 سیت موتس یعنی خشک گامس زمینس زندہ کران یعنی تروتازہ۔ بے شک یہ تھہ ہنہ نعمت نہ دلیل  
 وحدت آسحہ علاوہ دلیل یرہ تھہ ہنز کہ اللہ تعالیٰ ہنہ قدرت اول لوکن ہمدہ مر نہ پتہ تمن بیہ زندہ  
 کرنس پیٹھ۔ آہ سیت سپہ ثابت کہ یو ہے خدایہ بقیانہ زندہ کران سارنہ مردن بیہ ہنہ ہی پر ہنہ  
 چیزس پیٹھ قدرت اول وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا الظُّلُمَاتِ مِنْ بَعْدِهَا يُكْفَرُونَ تو پتہ ہر گاہ سوزو اس  
 نھدس زراقتس پیٹھ منفر ہوا یرہ سیت تم و چمن تھہ زراقتس زرد سیت خشک گروہان یک دم بدلہ نھد  
 حال تمہ پتہ ین تم کفر ان نعمت کرن۔ یرہ لغو سانہ روز کھ نہ یادے۔ آہ سیت سپہ معلوم کہ تم چھ  
 عس تھہ ہ خاطرہ غم کیوں ہنہ بے کار فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا مَدِيرِينَ  
 نھہ نہ حض بکھ کہ نہ نوزہ ناو تھہ مردہ بیہ نہ حض بکھ کہ نوزہ ناو تھہ ز رہن آلو۔ خصوصاً ایہ تم تو بہ کن  
 تھر پھر تھہ تو بہ نشہ دور ژلان آسن وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعَمَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ بیہ نہ حض بکھ نہ نھہ ڈتھہ  
 ہا تھہ انین بلکہ تمن ڈتھہ رومڑ آسہ إِنَّ تَسْمِعُ الْأَمَانَ لِيَوْمِنَا فَهَهُمْ مُسْمِعُونَ نھہ بکھ کہ نہ

وَأَنْتَ يَهْدِي الْعَمَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسَبِّحُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ  
بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۵۳﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ  
ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ  
ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿۵۴﴾  
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِئُوا غَيْرَ سَاعَةٍ  
كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿۵۵﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَ  
الْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا


بوزہ تاوتھ مگر ہم پڑھ کر ان بچہ سائین آیاتن۔ تمہ بچہ سائین حکمن گردن دارہ دن بیلہ ہم لوکھ مشابہ  
بچہ مردن نہ زرین کس منہ تھا و بچہ توقع نہ برانتھ ایمانج تمن نشہ نہ منہ کھیو جہدہ ایمان نہ انہ تک کا نہ  
غم اللہ الذی خلقکم من ضعیف ثم جعل من بعد ضعیف قوۃ ثم جعل من بعد قوۃ ضعیفا  
و شیبۃ معبود بر حق بچہ سی ذات پاک ہم نہ پیدہ کرنوہ کمزوری ہدیس حاشس منز سگیہ انسانہ سزا ابتدائی  
حالتھ لوکھ چارج حالتھ تو پتہ کورنوہ تمہ کمزوری پتہ قوت نہ طاقت عطا یعنی جوانی تمہ قوت پتہ کرنوہ یہ کمزوری نہ  
بجز عطا یخلق ما یشاء و هو العلیم القدیر نہ یہ یشعان بچہ نہ بچہ پیدہ کران۔ پر بچہ تصرفس بچہ  
نہ پور زمان۔ تھہ تصرنفہ کس جاری نہ نافذ کرنس پیٹھ بچہ پور قدرت تھوان۔ سی بچہ سورے زانہ  
وان نور قدر نہ دول و یوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة کذالک کانوا یؤفکون  
تمہ دہنہ قیامت قائم سپدہ کافر نہ نافرمان لوکھ ہاؤن تمہہ ڈہک ہولناک حالات دہمتھہ قسم کہ قیامت  
آیہ سینشاہ جلد۔ اس رودنہ قبرن اندر یعنی عالم برزخس اندر مگر اکس گرہ نہ اکس ساھس۔ تھہ پائٹھ اس  
نا تم دنیاہس منز نہ اولہ پکان یعنی دنیاہس منز نہ آس ہم لوکھ غلط خیالات دکن منز جماوتھ پھر تھہ تھہ  
کران و قال الذین اوتوا العلم و ایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث من بخر من

يَوْمَ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۵۳﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُنْفَعُ  
 الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿۵۴﴾ وَلَقَدْ  
 خَرَّبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ  
 بِآيَةٍ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿۵۵﴾

وہن تم لو کہ یمن علم نہ ایمان عطا کرنے آتے یعنی باایمان یمن شریعت کین چیز ان ہند پتہ ہتھ  
 اے کافر و جب ٹھہرے وہ قبرن اندر خدایہ سیدہ لیختہ نہ مقرر کرتے وقتہ موجب برابر قیامتہ کس  
 دوس تان فہذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون کیا ہتھ ازوارہ کارہ قیامتک دودہ مگر جبہ بہ  
 آسودہ یہ ذہک یقین تھوان بلکہ آسودہ تکذیب نہ انکار کران تھی انکارہ کہ شامتہ ہتھوہ از پریشان  
 فئومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتہم ولا ہم یستعتبون پس دیہ نہ تہ دہہہ کا نہ نفع نہ فائدہ  
 تمہن لو کن یوسر کہ نہ مگرہ سیت پانس ظلم کور عذر کرن نہ بہہ تمہن نشہ عذر پیش کر ٹک نہ توبہ کر ٹک  
 یا خدایس راضی کرہ ٹک مطالبہ کرنہ کیا زہ تمیک وقت آسہ گذر یوست۔ وَلَقَدْ خَرَّبْنَا لِلنَّاسِ فِي  
 هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ یہ کہہ آسہ بیان ہتھ قرآن مجیدس منز لو کن فکرہ تارنہ خاطرہ بہہ تمہن  
 ہدایت ہنہ خاطرہ پر ہتھ کسچہ مثالہ نہ پر ہتھ قسمک مضامین ہم پتہ کمال بلاغتہ سبہ مقتضی آس کہ یمن  
 کافرن ہنہ ہدایت مگر نہایت بغض و عنادہ سبہ ٹورنہ تموسہ قبول۔ تھی ہدہ نہ تمہن کا نہ فائدہ حاصل۔  
 وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ تو پتہ ہر گاہ جبہ یار رسول اللہ تمہن نشہ ہو تمو مجز و اندرہ کا نہ مجزواہ یمن ہنز تم  
 فرمائش چہ کران لَیَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ توبہ و ان ضرور کافر کہ جبہ ساری

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۹﴾ قَاصِرٌ  
 إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿۶۰﴾

چھوہ اُپزیاہ گڈا لک یتبِعُ اللہُ عَلٰی قُلُوبِ الذِّیْنَ لَا یَعْلَمُونَ تھے پانٹھ چھ اللہ تعالیٰ نادان ہندین و لن پیٹھ مہر کران یعنی روز بروز پٹھ جہدہ قبول کر ٹک استعدا دُست تہ ضعیف سہان لغض و عناد ک قوت قوی سہان قَاصِرٌ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا یَسْتَخِفُّكَ الذِّیْنَ لَا یُوقِنُونَ پس کر و جہہ یار سول اللہ جہد س تکلیف س تہ ایذاء س پیٹھ صبر پڑ پانٹھ اللہ تعالیٰ اُن کس یاری ہند و عدہ توبہ سیت کورمت پٹھ سوب پٹھ حق تہ پوزیم مُکرین قیامت تہ سہان باعث توبہ بے صبری کر نس پیٹھ۔



## سُورَةُ الْقِسْمَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 اللَّهُمَّ ۱ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۲ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ۳  
 الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ  
 يُوقِنُونَ ۴ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۵  
 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ  
 اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۶  
 وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلِيَ مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ

اللہ ہم چھ حروف مقطعات۔ سمن ہند معنی زانہ پانہ خدا تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ہم آیات چھ حکم یہ مضبوط کتاب ہند هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ نوسہ کتاب بڑھدایت تہ بڈرحت ہتھ نیکوکاران ہندہ خاطرہ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ تم نیکوکار گئے تھے ہم نماز قائم تھاوان ہتھ یہ ہم زکوٰۃ ادا کران ہتھ یہ ہم آخر تک پور یقین تھاوان ہتھ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تھے ہتھ پنہ نس پروردگارہ سزہ سزہ وتہ پیٹھ۔ یہ چھ تھے کامیاب تہ رستگار وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ یہ ہتھ لوگو اندرہ بعض لوکھ تہ تمسک ہم عملی چھ ہیوان قرآن مجیدہ ہتھ اعراض کر تھہ واہیات یہ فضول قصہ ہتھ لوکن تم ڈالن فضول تھہ دن دن خدا یہ سزہ تہ نشرہ نادانی سیت وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا یہ زانہ تھہ اکھ ٹھٹھاہ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ تھے لوکھ گئے تم ہندہ خاطرہ خوار کرہ وان عذاب ہتھ۔

## فِي آذَانِيهِ وَقَرَأَ قَبَشْرَهُ بَعْدَ ابِ الْيَوْمِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ۝ خَلِيدِينَ فِيهَا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا

وَلَدَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ ابْتِغَاءً لِمَنْ كَانَ لَهُ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي آذَانِيهِ وَقَرَأَ قَبَشْرَهُ بَعْدَ ابِ الْيَوْمِ ۝

یاد پرند یوان، جسے تمس پینہ سان آیات تحریر تھ چھ ژلان سبخرہ سان زن نہ نوزے۔ زن جہندین کنن دون زر اوس۔ پس خبر دیوئس کڈرہ عذابی۔ سمہ آیہ کریمک شان نزول چھ کہ اکھ شخصہ اوس کافرن ہند یوز ٹھیواندرہ نس نصر بن حارث نا اوس۔ نہ اوس گروہان ملک فارس کن تجارت خاطرہ سمہ اوس سمہ کنین پادشہن ہند قصہ نہ تاریخ منمل ہیوان۔ تو پتہ اوس قریش اندر بوجتہ ومان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بٹھ تو بہ ومان عا دو ٹمودن ہند قصہ ولو بہ نوزہ نا دودہ رستم اسفند یار بیہ ٹھی پادشہن ہند قصہ۔ بعضے لو کہ آس دلچسپی سان تم قصہ نوزان۔ بیہ اس ام منل ہڑ مڑاکھ گیون واجن کنیزا۔ تو پتہ یاد وچمان اوس کانہ شخصس اسلامس کن مائل سپان اتی اوس اس کنیزہ تہش سوزان۔ تہ کنیزہ اوس ومان زہ کھیوان چلان یہ شخصس بہ بوزہ ہلان پن گیون تو پتہ اوس تہ شخصس ومان وچمان بٹھکھ حال۔ ژہ وند بٹھ بٹھ کٹھ بند تھ بٹھ کن محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو کن نا دودان بٹھ۔ تم چھ ومان نماز پرو، روزہ دار روزو، زو ژٹو دیش پتہ چنانچہ اتھ پینہ سپدیم آیات کریمہ نازل یمن آیات کریمن منز بٹھ اللہ تعالیٰ ذکر کران تمن شقین ہنز حالتھ یم ہند جمالت و شقاوتہ مٹو کہ قرآن کریمہ بٹھ اعراض کر تھ نزن گیون لود لعب تماشہ وچمن یابیہ واہیات و خرافات نوزنس منز مستغرق آس تم چھ کوشش کران کہ یمن لو کن نہ ڈالمن یعنی کامین سیت مشغول کر تھ خدایہ سندہ دینہ بٹھ دینہ پنن کنن پینہ چھ ٹھٹھ نہ مذاق کران حضرت حسن بصری بٹھ فرمایان لوالہدیش متعلق کہ نس چیز ژہ ڈالی خدایہ سندہ عباد نہ بٹھ مثلاً قصہ دنن یا بوزن ٹھٹھ مسخری کرن گیون نہ باجہ بوزن یہ سورے گو د داخل لوالہدیش منز شان نزول سمہ آیہ کریمک اگر چہ خاص چھ مگر حکم چھ عام۔ نس لود لعب یا نوسہ کام دین اسلامہ نشہ یا احکام اسلامونشہ پتہ رنگ باعث سپدہ نہ بٹھ حرام

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ۝ بے شک سمو لو کو ایمان اون نہ رژہ عملہ کر کیمہ جہندہ خاطرہ چھ نعمون ہند جنت خلدین فیہا تمنے جنن منز روزن ہمیشہ۔ وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا یہ بٹھ خدایہ سند پوز وعدا

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ① خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْأَرْضَ  
 فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ  
 وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ②  
 هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ  
 الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ③ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ  
 لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ④ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ① سے بٹھ غالب ہے حمد اول خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا تھی  
 پروردگار نے کڑ پیدہ آسمان تھمورای۔ پس تہہ ہے وچھان چھوہ وَالْأَرْضَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ  
 تَمِيدَ بِكُمْ یہ تھو تم زمینس پیٹھ بڈ بڈ کوہ لنگری تھنہ سوزمین توبہ لوکن پیٹھ یون کن تھہ دو تل جہ  
 کرہ۔ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ یہ تراون تھنکرت اتھ زمینس منز پر تھہ قسمک جانور وَأَنْزَلْنَا مِنَ  
 السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ یہ کوراسہ نازل آسمانک طرفہ رود تو پتہ کھار اسہ تھہ  
 زمینہ منزہ پر تھہ قسمک نباتات جورہ جورہ۔ رت رت چیز هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ  
 مِنْ دُونِهِ تھے فرما یو کہ اے لوگو یہ گئے خدایہ سنز پیدا تھیں۔ پس ہا تو تہہ مہ خدایس ورا ی ایم  
 معبودان باطل تہہ مقرر کران تھو کہ تھو کیاہ کور پیدہ تا اینکه یوزنہ ایہ ہاتھز کیا زہ گھوہہ پر ستش کرن  
 بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بلکہ جھہ ظالم تہہ گرا ہی اندر تھلا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ  
 وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ④ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ ⑤ یہ کوراسہ عطا تھن علیہ السلا مس گانہ  
 جار۔ سہ گوو علم و عمل تو پتہ فرمودس اسہ کہ شکر ڈپ خدایس تھنزان سار نے نعمون پیٹھ خصوصاً  
 ختمس پیٹھ یوسہ بڈ نعمت تھہ کیا زہ پس خدایہ سنز شکر گذاری تھہ کران تھہ تھیک فائدہ پنہ پس  
 پائس۔ یعنی تھس اندر زیادتی سپدن پس کفران نعمت تھہ کران تھہ پنہ نے نقصان کران۔ پس بے  
 شک اللہ تعالیٰ تھہ بے نیاز تھہ۔ محتاج کانہہ ہنزہ شکر گذاری تھن۔ سہ جھہ حمد ڈپنہ آنت۔ چو تھہ



حَمِيدٌ<sup>۱۲</sup> وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ  
 إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ<sup>۱۳</sup> وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ  
 أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلَةٌ فِي عَامِيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ  
 إِلَى الْمَصِيْرِ<sup>۱۴</sup> وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ

لقمان علیہ السلام آیہ رحمت عطا کرنے میں سہ ماہی ثابت کہ تم چھ حکیم : دانہ۔ پچھس چھمہ سزہ تعلیم  
 چھ قابل عمل۔ لہذا کرو بیان نہیں و تعلیم تو اندرہ کہنہ۔ **وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ  
 بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ** بیہ یلہ لقمان علیہ السلام پنہ بس پچوس وعظ و فصیحت کران دوس  
 گوہر اتھ چھ بیے کہ شریک ٹھہر لوزنہ معبود بر حصہ کئے قسمہ پز پانٹھ ٹھہر شریک ٹھہر لان ہنٹھہ نوڈ ظلم  
**وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ** بیہ کور آسہ تاکید ی حکم انسانس ماس ماجہ ہندہ حقہ کہ پر ہنٹھہ حاس اندر  
 گروہ جنہ ادب : رعایت ملحوظ تھلان۔ کیا زہ تمو ہنٹھہ اس بچہ سبہ خاطرہ دار یاہ مشقت : تکلیف ٹھت  
 خصوصاً ماجہ چنانچہ **حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلَةٌ فِي عَامِيْنِ** نکل : انسان تم سزہ ماجہ پنہ  
 یڈ منز۔ **ضعف** : پیٹھہ ضعف : تکلیف پیٹھہ تکلیف برداشت کر تھہ ٹون رتھن۔ اکھ لوس یڈ منز ٹھٹک  
 تکلیف تو پتہ پر سیک تکلیف، دود چاویک تھہ تر او ٹک تکلیف۔ راس دوس پنہ آرام : آسایش راوہ  
 ران اس اللہ وان : سکہ وان تو پتہ چھہ اس بچہ سندہ دود ڈٹھہ ٹک مدت دون ورسن تام یمن دون  
 ورسن : ہنٹھہ یہ موج اس چھس مشفقانہ خدمت کران ہنٹھہ مال سندہ : ہنٹھہ آسان اشتراک عمل۔ موج  
 پچھس کو چھہ منزہ تر لوان : مول پچھس ٹھلان۔ مول پچھس تر لوان : موج پچھس ٹھلان ہم دودہ شوے  
 پچھس لولہ متہ لائے کران۔ اسی موکھ کور آسہ پنہ نین حقوقن سیت ماس ماجہ ہندہ حق ادا کر ٹک حکم  
 اس انسانس پیٹھہ **أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ** میہ فرمودہ اس انسانس کہ کر ڈہ شکر گزاری۔ اکھ میان بیہ  
 کر ڈہ یہ شکر گزاری پنہ نس ماس ماجہ ہنز اللہ تعالیٰ سزہ شکر گزاری کیہ عبادت و اطاعت سیت ماس  
 ماجہ ہنز شکر گزاری کیہ خدمتہ سیت بیہ جہہ حقوق ادا کرنے سیت **إِلَى الْمَصِيْرِ** پتھلا کہ پچھوے نش  
 واتن حمہ سائہ ہنٹھہ و دومت آسٹھہ ٹھٹھہ لوکھ باوجود ایچہ ماس ماجہ ہندہ حق ہنٹھہ سینٹھہ بوڈ مگر توحید ک

بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعَمُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَآتِيَهُ  
 سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ  
 تَعْمَلُونَ ﴿۱۵﴾ يُبْنِيٰ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ  
 فَتَكُنْ فِي صَعْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِي بِهَا  
 اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿۱۶﴾ يُبْنِيٰ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَآمُرُ  
 بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۗ

مسلہ بخواتین عظیم الشان کہ وَلَنْ جَهْدَكَ عَلَىٰ أَنْ تَشْكُرَ لَوْ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعَمُهُمَا ہر گاہ  
 تم دو شوے یا تمواندرہ اکھ بخیر کرنے میں شریک ٹھہرو، لو اس پیٹھ سے چیز سچ نہ ڈہ خبرے آسی سے کتھ  
 مان زہ نہ ڈہ کینہہ ہرگز وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا یہ کتھ بختھ ضروری کہ دنیا میں ضروریاتن اندر  
 روزہ ڈہ تمن سیت رہہ طریقہ وَآتِيَهُ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ دینہ کس معاملس اندر کچھ ڈہ کس شخصہ  
 سزہ دہ کس میں رجوع کرہ ان آسہ یعنی میانین احکامن پیٹھ عمل کرہ ان آسہ۔ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ  
 فَأُنَبِّتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تو پتہ بختھ تو پتہ سارے کامن کن رجوع کرہ ان۔ بو کر وہ تو پتہ سارے خبر  
 تمن سارے کامن ہنزیرہ تہہ کران آسہ۔ لہذا مہ کرہ تہہ میانس مند کلمس خلاف آسہ پتہ چھ بیان  
 کران۔ بیہ لقمان حکم یعنی لقمان صاحبن فرمودہ پتہ کس فرزندس یُبْنِيٰ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ  
 خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَعْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِي بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ اے  
 میانہ فرزندہ اللہ تعالیٰ سند علم بہ قدرت چھ تیوت کہ اگر کاسہ ہنز عمل آسہ آسہ دانس برابر مقدارہ  
 کن سوی آسہ کہ ہڈس ہلکس منز کھینتھ تھانہ آسہ آسہ آسمان اندر لو کن نظر دور مند جاہہ یا آسہ ز مینس  
 منزل پاتال موت نہ کانہ نہ دانتھ ہیچ مگر خدا یہ سند شان بختھ کہ سمو ساروے پو شیدہ جاہہ منزہ  
 کڈتھ اندہ قیامتک دوہ حسابہ وقتہ ای اندرہ چھ سپدان تم سند کمال علم بہ کمال قدرت ثابت پتھک  
 اللہ تعالیٰ چھ سیشاہ بوڈباریک بین سارچی خبر تھاوہ دن۔ کس بختھ پور خبر کس چیز بہ کس چھ۔ یُبْنِيٰ

إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا  
تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝  
وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ  
لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۝ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ تَنَافِي السَّمَوَاتِ وَمَا  
فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ

اقب الصلوة وأمر بالمعروف وإنه عن المنكر وأصابتك إن ذلك من عزم الأمور  
عملن متعلق فرمودنس یہ نصیحت کہ اے میانہ فرزندہ نماز تھو برپا۔ نماز تھو اعلیٰ درجی عمل بیہ اس رٹن  
کامین ہند امر کران بین لوکن بیہ اس پچھ کامیونہ لوکن منع کران۔ اتھ منزئس تکلیفہ مصیباہ  
والی پر تھ مصیبتس پینہ اس صبر کران۔ پزپاٹ یہ صبر کرن چھ مدتہ جو کامیونہ۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ  
لِلنَّاسِ اخلاق وعاداتن اندر فرمودنس بیہ نہ اس لوکن نہ تھ بن پھران تکبرہ سبہ وَلَا تَمْشِ فِي  
الْأَرْضِ مَرَحًا بیہ نہ اس زمینہ پیٹھ پکان ڈالہ ماران حمہ غرور و تکبرہ سان کیازہ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ  
مُخْتَالٍ فَخُورٍ بے شک اللہ تعالیٰ چھند پسند کران کانسہ مغرورس نئس تھ پکان آسہ وَالْقَصْدُ فِي مَشْيِكَ  
وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ بیہ اس میانہ زوی کران پنہ نئس پکنس اندر نہ اس دور تلجھ پکان نہ چھ  
اکھ وقارس خلاف بیہ چھ تھ اندر ڈب لکنک خطرہ نہ اس تول تول پکان یہ چھ منکران ہنز چال۔  
بیہ کرپست آواز بن کر کچھ نہ اس لاگان۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ پزپاٹ آواز اندرہ چھ  
پچھ توڑ کمرہ سز توڑ۔ تھ اندر نہ کانسہ فائدہ چھ۔ لہذا انسان آستہ نہ بن کھر حضرت نکر مدہ حضرت بلت چھ  
فرمان کہ لقمان علیہ السلام آس نبی۔ مگر حکیم ترمذی چھ نوارس منز مرفوع اکھ حدیث شریفہ پیش  
کران کہ لقمان علیہ السلام آس یہ خلافت پیش کرنہ داؤد علیہ السلامس برد تھ مگر تمودوپ ہر گاہ  
حکم چھم میلہ چھم منظور بسر و چشم۔ ہر گاہ میانہ مرضی نوجب چھ میلہ۔ خمس بہ معافی مکان چنانچہ پتہ  
آیہ نہ خلافت عطا کرنہ چنانچہ یہ روایت چھ در منثورس اندر۔ اکثر علماء چھ فرمان کہ حضرت  
لقمان چھ آستہ جبکہ روزن وال أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ تَنَافِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ

مَنْ يُجَادِلْ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴿۲۰﴾  
 إِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا  
 عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَئِكَ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿۲۱﴾  
 وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ  
 بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿۲۲﴾ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا  
 يَعْرُوكَ كُفْرُهُ إِلَّا نِيَامَ رُجْحِهِمْ قَتِيلًا ۗ فَمَا عَمِلُوا إِنْ لَمْ يَكُنْ

عَلَيْكُمْ نِعْمَةٌ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ کیا تو بہہ محوہ نامشاہدہ سیت سے دلیلوسیت یہ کتھ معلوم کہ اے اللہ تعالیٰ ان چھہ بواسطہ یا بلا واسطہ کامبہ لاگت مسخر سے رام کرست جہدہ فائدہ خاطرہ تم ساری چیزیم آسمانن بیہ زمین منز چھہ۔ بیہ کرین پتہ نعمو پورہ توبہ پیٹھ۔ ظاہری بندہ نعمو سے۔ تم نعمو یہ ظاہری حواسوسیت شینہ یوان چھہ باطنی سے پوشیدہ نعمو سے یہ نعمو عتله سیت شینہ یوان چھہ۔ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ہاوجود آں چھہ لو کو اندرہ بعضی تم لو کتھ سم بحث سے جھوہ چھہ لاگان خدا یہ سب کس آنہ کس معاملس اندر علمہ ورائے واقفہ ورائے سے عتد دلیلہ ورائے یہ عتدہ روشن کتابہ ہندہ حوالہ ورائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا تو پتہ بلہ وندہ یوان چھہ تمس بیروی کردتھ خمس نئس اللہ تعالیٰ ان نازل کور وپان چھہ نہ بلکہ کراس بیروی تھہ طریقس تھہ پیٹھ آسہ پن مال بدبب عمل کران وچھہ اُولَئِكَ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ کیا ہر گاہ جہدین مالین ہڈن شیطان نادردوان اوس تھہ کراس نئس نارہ کس عذابس موجب اوس توہہ کرن نہ تم جنز بیروی وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ بیہ نئس اکھاہ پز یوک اجاع کر تھہ نئس لوہ پن پان معبود ہر خمس تھہ حاکس منز کہ سہ آسہ رتھہ کامبہ کردوان ادہ تمی کر تھہ حکم رزہ۔ تمی کر زورہ تھپ مضبوط ہانکلبہ۔ چولا کہ ہتھہ سارے کامبہ سے سارے کامین ہند انجام خدا یہ سے نئسہ واثن دول۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَعْرُوكَ

عَلِيمٌ يُذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۲۳﴾ نَسَبَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضَّطَرُّهُمْ إِلَىٰ  
عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿۲۴﴾ وَلَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ  
لَيَقُولَنَّ اللهُ قُلِّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۲۵﴾ لِلّٰهِ مَا  
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿۲۶﴾ وَلَوْ اَنَّهَا  
فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامًا وَالْبَحْرِ يَمْدًا ؕ مِنْ بَعْدِهَا

کفرہ الیٰنا مرجعہم فنبتہم بما عملوا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ يُذَاتِ الصُّدُورِ یہ ایم شخص باوجود ایم  
وضاحت کفر ہے انکارے کور کھند کفر ہے انکار ہے حض کرن توہہ غم گین ہے آزرده کسی بصرہ چھہ وائیں  
رجوع کرن تمہن سارنے۔ اس کرد کہ خبر دار تم تمو ساروے کامیو سیت سمہ تم دنیا ہس منز کران  
آس۔ بے شک اللہ تعالیٰ بھہ پور زمان تم سارے تھہ یہ دن منز کھٹھہ ہے پو شیدہ بھہ باقی کامین ہنز  
بھہ کھٹھہ۔ نَسَبَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضَّطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ تمسح تکانو کہ اس تم دنیا ہس منز کم کینہہ  
کالاہ تو پتہ و اتناو کہ اس تم جبر اسخت عذابس اندر یہ منز نہ تم نیر تھے نیکن۔ بھہ توحیدس کن اس  
تمس نادروان چھہ تمہہ جن ابتدائی بعض تمہن بھہ تم پانہ تسلیم کران چنانچہ وَلَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ  
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللهُ قُلِّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ہر گاہ بھہ یار سول اللہ کن پر ژھو آسمان ہے زمین کم کور پادہ ضرور وشن کہ  
اللہ تعالیٰ ان کور پادہ قُلِّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ بھہ دو پو محمد یوسن خدا ہس کہ یہ تھہ بھہ توہہ فکریہ ٹران۔ یوسہ تھہ  
زیادہ ضروری اس سوسہز جہندی اقرارہ سیت ثابت دویم تھہ یوسہ آتھہ سیت لازم آس کہ ٹس چیز  
مخلوق ہے پادہ کرنہ آسہ نہ بھہا معبود آستہ۔ یہ بھہ نہ ٹگان زانن یہ بھہ نہ تران فکریہ بَلْ  
اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ مگر تمواندرہ بھہ اکثر لو کہ کن نہ ایشہن ہے زانن ٹگان بھہ خدا یہ سند شان بھہ یہ  
کہ یلو ما فی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ خدا یہ سند بھہ ہے سورے یہ آسمان ہے زمین  
منز بھہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ بھہ بذات خود ہے بے نیاز۔ سارنے تعریفن سزاوار۔ سنی بھہ سزاوار  
الوہیت۔ تمسز خوبی ہے تعریف بھہ تیت کہ وَلَوْ اَنَّهَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامًا وَالْبَحْرِ يَمْدًا ؕ مِنْ

سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۷﴾  
 مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَبْعَثُكُمْ إِلَّا كُنُفُسٍ وَّاحِدَةً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿۲۸﴾  
 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ  
 وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ  
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۲۹﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ

بَعْدَهُ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بیہ ہر گاہ تمن سار نے کلین یم تمام روی  
 زمینس پیٹھ بھر تمن ین ہلاوند قلم سوب حصہ تو پتہ آتہ سمندر میل لیکنہ خاطرہ سیاہی اکہ سمندرہ  
 پتہ ستوے سمندر تموے قلمو سیت بہ تمی میلہ سیت ین لیکنہ اللہ تعالیٰ سبہ کلمات یعنی ترہ تھہ یمو  
 سیت جہنہ کمالات من پھر نہ۔ یم ساری قلم بہ یہ سارے میل گومہ ختم مگر ترہ تھہ گوہن نہ ختم ہمو  
 سیت تم کمالات بیان ین کرنہ بیٹک اللہ تعالیٰ بھر غالب سینہاہ حکمتہ دول۔ نہ چھ قدر تس اندر بہ  
 کامل علبس اندر بہ کامل۔ تہزے قدرت گیہ کہ سار نے کرہ بیہ پارہ ہتھہ نامہم لوکھ دشوار زانان چھ  
 حالانکہ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَبْعَثُكُمْ إِلَّا كُنُفُسٍ وَّاحِدَةً اے لوکو تو بہ سار نے ہند گوڈہ پارہ کرن بیہ مرت دو بارہ  
 زندہ کرن ہتھہ خدا بس نشہ مگر تھہ ہتھہ اکس شخصہ سند ہو پارہ کرن ہتھہ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ بے شک  
 اللہ تعالیٰ ہتھہ سورے بوزہ وان سورے و ہتھہ وان سہ دیہ مرنہ پتہ بیہ زندہ گوہنہ کین منکر ن ضرور  
 سزا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ  
 أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ کیا و چھان ہتھہ کاثرہ اے و چھ دنہ کیتھہ قدر بہ اول ہتھہ نہ۔  
 سو ی ہتھہ راژ ہندس اکس حصس دوہنہ کس حصس منزواتہ تاوان بیہ دوہ کس حصس راژ ہندس حصس  
 منزواتاوان بیہ تھو تمی آفتاب بہ زون کامہ اندر لاگتہ۔ سمودو یواندرہ ہتھہ پر ہتھہ اکھاہ پکان تھہ و قس  
 تان کس جہنہ خاطرہ مگر ر کرنہ آنت ہتھہ۔ یعنی قیاس تان۔ بیہ ہتھہ تا تو بہ معلوم کہ اللہ تعالیٰ ہتھہ بہ  
 سورے زانان بیہ خبہ کران چھوہ تو بہ چھاگمان زہ تہزہ شرکچہ کامہ کیا آسن تس نشہ پو شیدہ۔ نہ کیا دیہ نہ

مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ  
 الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي  
 ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝ وَإِذْ اغْتَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظَّلِيلِ  
 دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ  
 فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۙ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ۝

توبہ اچھے پیٹھے سزا۔ اَلَمْ تَرَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ۔ اَلَمْ تَرَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ  
 يہ تمھے یعنی آسمان پادہ کرن دودہ در اتمھ اگھ اکس منزواتہ بلان آفتاب نہ زون کاہہ لاگن ہتھ خاص اللہ  
 تعالیٰ سے یہ منو کہ کہ اللہ تعالیٰ ای ہتھ ہندہ ہستی نہ وجودس منز کامل سے ہتھ واجب الوجود۔ لو کہ  
 من چیزن ہنز پر ستش کر ان چھہ تس در اے تم چھہ باطل۔ یہ ہتھ اللہ تعالیٰ ای عالی شان، تھودہ نہ  
 نوڈ۔ تھہدس تھزرس نہ جرس وانہ نہ کہنے اَلَمْ تَرَ اِنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ كَمَا اِي  
 مخاطب ژہ چھے تا تو حید ج یہ دلیل معلوم کہ بے شک جہاز نہ ناوہ ہتھ پکان دریاون اندر خدایہ سندی  
 فضلہ سیت لِيُرِيكُمْ مِنْ آيَاتِهِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ تھہ نہ توبہ ہاوہ ہندہ قدر تک نشانہ پز  
 پاٹ اتمھ منز چھہ قدر تک۔ بڈ نشانہ صبر نہ شکر کرہ ون سندہ خاطرہ یعنی با ایمان ہندہ خاطرہ تھے ہتھ  
 مو جن ہندہ دو تھہدہ وقتہ صبر کر ان جہاز یا ناوہ بو تھہ لکھہ وقتہ شکر دپان۔ وَإِذْ اغْتَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظَّلِيلِ  
 دَعَا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ تو پتہ یلہ تمن کافر ان سمدرک موج تھود گھست سایہ بان ہندہ پاٹھے  
 وانہ یوان ہتھہ تمہہ سادہ ہتھہ مکان خدائس بندگی خالص تھندی خاطرہ امانت اعتقادہ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى  
 الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۙ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ تمہہ پتہ یلہ اللہ تعالیٰ تمن نجات دتھہ  
 بھس تل دانخوان ہتھہ تمو منزہ چھہ بعضے در میان حائس پیٹھے روز تھہ خدایہ سند یاد کر ان۔ یعنی شرک  
 تراو تھہ تو حید اختیار کر ان مگر بھتھے ہتھہ بالکل سائین آیاتن مشراو تھہ سائین تھہ رہہ کین نشانہ انکار  
 کر ان۔ مگر تھے لو کہ ہم غدار نہ مگر ان نعمت کرہ ون ہتھہ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمَآ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ  
عَنْ وَاوَالِدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَا زِعٌ عَنْ وَاوَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ  
اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغْرِبْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرِبَنَّكُمْ بِاللَّهِ  
الْعُرُورُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَ  
يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدًّا  
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ

لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَاوَالِدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَا زِعٌ عَنْ وَاوَالِدِهِ شَيْئًا اے لو کو کھوڑو پروردگار سے اپنے بس  
پتھ روز و تہمیدہ تا فرمائی ہے یہ شرک و کفر ہے یہ کھوڑو تھ دو اس سے دوہنے نہ کا نہ مولاد جواب ہے  
و تھ۔ عذاب پتھ ہے پتھ پنہ نس پنہوس ہے نہ ہے کا نہ پنہواہ پتھ پنہ نس ماس نشہ عنہ قسمگ  
عذاب یہ دوہ پتھ یوہون ضرور۔ کیا زہ اللہ تعالیٰ ان پتھ امیک وعدہ کورمت إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ پز پانٹھ  
اللہ تعالیٰ سند وعدہ ہے حق ہے پوز ثواب سے عذاب سے متعلق فَلَا تَغْرِبْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرِبَنَّكُمْ  
بِاللَّهِ الْعُرُورُ پس پتھ دھوکہ ہے توہہ دنیا ج زندگی پتھ سیت مشغول روز تھ سپہ و غافل تمہ دوہہ  
نشہ یہ پتھ خدایہ سندہ حقہ توہہ دھوکہ ہے شیطان فریب باز ہے إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ  
السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدًّا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ  
بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بے شک اللہ تعالیٰ سے پتھ قیامت خبر کہ سوگر سپہ واقع ہے  
پتھ سنی رود تر لو ان ہے پتھ تس خبر اسباب و آلات ہندہ واسطہ ورائے کیاہ چھہ زنان ہنزن شکمن اندر  
کور چھا کنہ پنہوہ ہے پتھ خبر کا نہ شخصس پگاہ گوسہ کام کرہ ہے یہ پتھ خبر کا نہ شخصس کتھ جا یہ منز مرہ  
کہہ وقتہ بے شک اللہ تعالیٰ پتھ سورے زندون تس پتھ سارے چیزن ہنز پور خبر۔



## سُورَةُ الشَّجَرَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 اَلَمْ نَنْزِلْ الْكِتَابَ لَارِيبٍ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۱ اَمْ  
 يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا  
 اَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِمَّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۲ اَللَّهُ  
 الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ  
 ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۳ مَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا سَفِيْعٍ ۴

اَلَمْ اسم چھ حروف مقطعات۔ یمن ہند معنی زلہ پانچ خدا تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَارِيبٍ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ کتاب یعنی قرآن مجیدہ کس نازل سپدس منز ہنخند کانہ شمشاہ یے چھ نازل سپدان رب العالمین سبہ طرف اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ کیاہ منکر چھاوانان یہ ہنخند پائے بلہ ٹھمر وومت حضرت محمدن صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جہد وئن ہنخند بالکل غلط۔ یہ ہنخند کانہ ہنومت بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا اَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِمَّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ بلکہ ہنخند یہ کتاب پڑ پات ٹھمدس پروردگارہ سبہ طرف نازل ہنخند ٹھمدہ امیر سیت یم کرو پروردگارہ سبہ عذابہ نشد من لوکن یمن کن نہ توہم ہر وٹھد کانہ ہنخند ہنم کردن آنت چھ دیوہ تم لوکھ راہراستس ہنخند ین اَللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ اللہ تعالیٰ گوسنی ذات پاک یم آسمان نہ زمین بیہ تم مخلوقات یم تمن دون منز باگ ہنخند پادہ کر شین دونن ہمدس مدس اندر۔ توہن سپد مستوی عرش ہنخند ہنخند طریقہ ہنخند شانس سزوار نہ لایق ہنخند مَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا سَفِيْعٍ اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ نہ ہنخند تھنخند بوڈ نہ عظیم الشان کہ ٹھمدہ رضاتہ اجازتہ ورائے ہنخند ٹھمد

أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿۳۱﴾ يُدِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ  
 يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿۳۲﴾  
 ذَلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۳۳﴾ الَّذِي أَحْسَنَ  
 كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿۳۴﴾ ثُمَّ جَعَلَ  
 نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ﴿۳۵﴾ ثُمَّ وَسَّوَّهُ وَكَفَّرَ فِيهِ مِنْ  
 رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا

کا نامہ مددگار نہ کہ نامہ سفارش کر دینا البتہ تہجدہ اجازت سپدہ شفاعت۔ مگر نصرت و مدد متعلق  
 آسہ نہ اجازت ہے۔ نہس کونہ چھوہ نصیحت رحمان کہ شخص ذات پاکس و بیجا شریک آستہ یدیر الامر من  
 السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون شی خدا ہتھ ہتھ کہ آسانہ  
 پیٹھہ ز مینس تام یمہ کامہ ہتھ تمہن سار نے ہند تدبیرہ انتظام کر دہن ہتھ شی۔ تو پتہ بن ساری معاملہ تہ  
 سارے کامہ تس برو تھ کن پیش کرنہ تھہ دوئس اندر سمہ ذہک مقدار تہجدہ گنز رنہ موجب اکھ ساس  
 وری آسہ یعنی قیامتک دودہ ذَلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ شی خدا ہتھ زانہ وان تہ  
 سورے کھنٹھ ہتھ بیہ یہ نون ہتھ سینھاہ غلبہ دول زبردست سینھاہ رحمتہ دول الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ  
 شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ یم پروردگارن سینھاہ رت کور پر ہتھ چیزاہ بیہ کور تم ابتداء  
 انسانہ سزہ پیدا نشہ ہمد سیدہ نشہ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ تو پتہ کرن پادہ تہجدہ نسل  
 تہ لولاد پتہ منزہ کڈنہ آمتہ بے قدر ضعیف آبہ قطرہ نشہ۔ ثُمَّ وَسَّوَّهُ وَكَفَّرَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ  
 لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ تو پتہ کورن ماجہ ہندس شکرکس منز تہجدہ بدن  
 برابر۔ تو پتہ دانہ نووان تھہ منز پھوکھ دتھ ہن روح۔ بیہ کرن پادہ تہجدہ سے کن بوزنہ خاطرہ بیہ اچھہ  
 وہجندہ خاطرہ۔ بیہ دل زانہ خاطرہ۔ یم ساری چیزہ سموسیت تہجدہ کمال قدرت ثابت سپدان چھہ اس  
 مکان تہجدہ شکر گذاری کرین مگر سینھاہ کم چھوہ تہجدہ تہجدہ شکر گذاری کران وَقَالُوا إِنَّا إِذَا ضَلَلْنَا فَنُفِئْنَا

تَشْكُرُونَ ① وَقَالُوا آءِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ ءَأَتَاكَ  
خَلْقٌ جَدِيدٌ ۚ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ②

قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ تُعْرَىٰ إِلَىٰ رَبِّكُمْ  
تُرْجَعُونَ ③ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ  
رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ④ وَ  
لَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىٰ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي

الارض ءاتاك اليفى خلقى جديديا قياتك منكر چه دنان كياه بلمه اس ميژه سبت ميژو هو كياه اسه  
چمانو پاره سپان بل هوم بليقاء ربهم كفرون يم جهن مرند پت به زنده سپده لسه فوت عجائب  
زانان۔ بلکہ چھ يم پنه نس خدا نس سبت ملاقات كره نس ۲۲ تس برو تھ گن حاضر سپد نس ۲۲ منكر قل  
يتوفكم ملك الموت الذي وكيلكم تعرا الى ربكم ترجعون تبه فرمايو كيه يار رسول الله توبه بخند  
معدوم سپان بلکہ كذه جهنم ين روحن ملك الموت نس خدا به سبه طرفه مقرر كرنه آمت بته۔  
جهنم روح كژنه خاطر۔ تو پت ايو تبه واتاونه پنه نس پروردگار س بعه سبه ديوه عملن هنز مزدور۔ رشان  
هنز رثه تخمن هنز تخمنى ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربهم هر گاه تبه وچھو كيه يم  
نا فرمان تبه پاشه اسن قياتك دوه كله يون گن ترلو تھ پنه نس خدا بس برو تھ كنه سخت شرمندگى اندر  
تبه وچھو جهنم عجب حاله دنان اس ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون اى  
سانه پروردگار ه اسه وچھه ۲۲ تبه اس انكار كران اس به بوز اسه ۲۲ سورس تبه نه اس گن تھوان اس  
سانه اچھه ۲۲ گن آئے مشر وانه معلوم سپد كيه كيو حاه بنفيمبر فرماوان اس ۲۲ سوري اوس پوز پس سوز كھنا  
ژه اسه به دنيا س گن اس كره بنودنه تبه رثه عمله بيشك بهجه اس دونه پور يقين كره دن۔ مگر به  
جهنم ون اسه سبه بالكل بكار ولو شئنا لاتينا كل نفس هديها هر گاه اسه منظور اسه با اس كره بنو پر تبه  
شخصس هدايت دنيا س اندر ايمان س ۲۲ رشان عملن گن ولكن حق القول مني لاملكن جهنم ين

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۱۳﴾ فَذُوقُوا بِمَا  
 نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا  
 كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۴﴾ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا  
 سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۱۵﴾ تَتَجَافَى  
 جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا  
 رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۱۶﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ

الجنة والناس اجمعين مگر میان تمہے ہتھہ ازلی سے تقدیری بندہ سے از لکہ دوہہ وار بہو حکمو موجب  
 محقق سہز مژہتھہ کہ ضرور نرن سے ہد کرن بو جنم جنو سے انسانوسیت۔ ایم کافر اس یکہ ڈلہ۔ وڈن علیہ  
 تھہہ ذنیاء س کن کو حن نا ممکن ہتھہ لہذا یہ تمہ وندہ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ  
 وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ دون ژ ہو تھہ ہمیک مزہ کہ توہہ اوسوہ ناہن تھہہ دوہس منز  
 کھنن مٹر دومت اسہ سے مٹر اووہ تھہہ ہمازہ رحمتہ ہتھہ کر وہ اس تھہہ محروم۔ دون ژ ہو ہمیشہ گی ہند  
 عذاب کیا زہ تھہہ آسوہ نا تو ہے کابہ کران إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا  
 بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ایمان آنن نہ سائین آیاتن مگر تھے لو کہ تمہن یکہ تم آیات ژ تھس  
 پاوند ہتھہ یوان وعظا و نصحت ہتھہ کرنہ یوان مٹاڑ سپد تھہہ چھہ تم سجدس منز چھہ پنہ نس خدا یہ سہد ہپاکی  
 حمد و ثنایاد کران۔ یہ ہتھہ تم ایمان آنہ ہتھہ کنہ قسمہ کھنر سے غرور کران ہتھہ پاٹھہ کافر چھہ کھنر کران یہ  
 گو تھہہہ اعترافک حال اسہ پتہ چھو بیان تھہہہہن اعمالن ہیوند تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ  
 يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ایمان آنن نہ سائین آیاتن مگر تھے لو کہ تھہہہ  
 لرہ و تھہہہ یونہہ فتنن نماز سے تھہہہہ نماز پر نہ خاطرہ تھہہہ علاوہ چھہہ مکان تم پنہ نس پروردگار س آلودی  
 دی عذابہہ خوفہ سے تو اچھہ امیدواری سان بیہ چھہہ تم تھہہہ مالہ منزہ نس اسکی عطا کورنت چھہہہ خرچ کران  
 خدا یہ سزہ و تہ اندر فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ نس ہتھہہ

اَعْيُنٌ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۸﴾ اَقْبَنُ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ  
 فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿۱۹﴾ اَنَا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ  
 جَنٰتُ الْمَآوٰى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۰﴾ وَاَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا  
 فَمَأْوٰىهُمْ النَّارُ كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَ  
 قِيْلَ لَهُمْ دُوْعُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِى كُنْتُمْ بِهٖ تُكذِّبُوْنَ ﴿۲۱﴾  
وَلَنْدِيْقْتَهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ

کانسہ ایک خبر تھیں چیز ان ہنریم کھینچتے تھانہ آست چھ جہدہ خاطرہ نیہہ کس خزانس اندر سمو چیز وسیت  
 تہزہ اچھ شہلن تے چیز آسن رڈ مزدور جہدہ خاطرہ تھن رڈن عملن ہنریمہ تم کران اس دنیا س  
 اندر اَقْبَنُ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ کیا تھن شخص با ایمان آسہ تہ چھا برابر تھن  
 شخصس تھن نا فرمان تہ کافر آسہ۔ نہ ہرگز جہنہ سم زہ برابر اَنَا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ  
 جَنٰتُ الْمَآوٰى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پس گے تم لو کہ سمو ایمان اون بیہ کر کچھ رڈہ عملہ جہدی  
 خاطرہ جہ روز تک باغ بطور پیش کشی۔ تھہ پاٹ مسمان عزیزن چھ تھیس تھیس چیز بکمال احترام پیش  
 کرنہ یوان تھہ پاٹھ نہ تھہ پاٹھ سائل تہ تھہ جس بے قدری تہ بے وقعتی سان ونہ یوان تھہ۔ تھن عملن  
 ہڈل یہ تم کران آس دنیا س اندر وَاَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوٰىهُمْ النَّارُ كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَخْرُجُوْا  
 مِنْهَا اُعِيْدُوْا فِيْهَا دون سمو لو کو نا فرمانی تہ ٹھر کور جہدہ روز نچ جائے تھہ نار جہنم۔ تھہ اندر واتھہ یلہ  
 یلہ تم تھہ منزہ نیر تک خیال آسن کران۔ بیہ آسن تھہ منز واپس واتھونہ یوان وَقِيْلَ لَهُمْ دُوْعُوْا  
 عَذَابَ النَّارِ الَّذِى كُنْتُمْ بِهٖ تُكذِّبُوْنَ ونہ آسکھ یوان ڈہو منزہ تھہ نار جہنمک تھہ تھہ انکار آسہ  
 کران وَلَنْدِيْقْتَهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ بیہ ڈھنا  
 دو کہ اس تم ہونہہ ڈر جک عذاب دنیا س اندر قیامتجہ بڑہ عذاب برو تھہ دیو تم پائس پین ٹھرہ تہ ٹھر کہ  
 بٹھہ ٹھت پھیرن۔ تھن لو کن ہند عذابس گرفتار سڈن جھنہ عجائب کتھاہ کہنہہ تہ کیا زہ وَمَنْ اَظْلَمُ

الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۲۱﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ  
 بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿۲۲﴾  
 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ  
 مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۲۳﴾ وَ  
 جَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لِمَا صَبَرُوا هُوَ  
 كَانُوا بِآيَاتِنَا يُوْقِنُونَ ﴿۲۴﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمُ


مَنْ ذَكَرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ کوه اکاهہ پنچہ یٰ ظالم کس  
 شخصہ سندنہ خوہہ نس و عطا نصیحت آیہ کرنہ پنہ نس پروردگارہ سندنہ آیاتوسیت توبہہ پنچہ تم پنچہ تمو آیاتو  
 نچہ لہذا آیہ پنچہ پنچہ ہمہ نس مستحق عذاب آس اندر۔ ضرور پنچہ اس تمن نافرمان انتقام۔ پنچہ روزو  
 مظمن یارسول اللہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى  
 لِبَنِي إِسْرَائِيلَ بے شک اسہ کز عطا ہمہ دی پنچہ موسیٰ علیہ السلام کتاب (تورات) یہہ کس  
 اشائس اندر تمن تکلیف برداشت کرنہ ہوتہ۔ پنچہ پنچہ کراسہ تہ توبہہ کتاب عطاہہ کس اشائس اندر پنچہ  
 توبہہ تہ تکلیف برداشت کرنہ۔ نس نہ روزو پنچہ پنچہ تہ ترودس اندر امہ کتابہ ہندس عطا سپہ نس اندر۔  
 آتھ منز چھہ کانہہ شک تہ پنچہ یانہ کرو ترود موسیٰ علیہ السلام سیت در شب معراج ملاقات کرہ نس  
 اندر توبہہ کورہہ حقیقتہ پنچہ تمن سیت ملاقات نہ کانہہ نظر بند ی یا خیالی ملاقات لوس نہ بہہ کراسہ سو کتاب  
 یعنی تورات بنی اسرائیلن ہمہہ خاطرہ سبب ہدایت پنچہ پنچہ سپہہ پنچہ کتابہ سیت تہ وار پنچہ لو کن ہدایت پنچہ  
 روزو خوش وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لِمَا صَبَرُوا وَ كَانُوا بِآيَاتِنَا يُوْقِنُونَ یہہ  
 کراسہ بنی اسرائیلو اندرہ وار یاہ پیشوا۔ ہم و تھ ہوان آس لو کن سانہ پنچہ موجب یلہ تمو صبر کور پنچہ  
 من ہندس پنچہ پنچہ یہہ آس تم سانس آیاتن پنچہ یقین کران امہ سیت چھہ تسلی با ایمان کہ یلہ تم تہ  
 اشاعت قرآنس پنچہ صبر کرنہ تم تہ کرو کہ اس دنیا ک نام تہ پیشوا یہہ گوو دنیا کہ اعتبارہ تسلی

يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۲۵﴾ أَوْ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ  
 كَمَا هَلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَيشُونَ فِي مَسْكِينِهِمْ  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿۲۶﴾ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ  
 الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ  
 أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿۲۷﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى  
 هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۸﴾ قُلْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَنْفَعُ

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصَلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بے شک تمہد پروردگارے کرہ فیصلہ بنی اسراہیلن منز قیامتک دوہ تمن سارے تمن اندر تمن منز تم اختلاف کران آس۔ سہ فیصلہ گو دیو ہے کہ با ایمان و اتقادہ جنس اندر۔ کافرن و اتقادہ جنس اندر۔ اَوْ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا هَلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَيشُونَ فِي مَسْكِينِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ کیا تمہدین دشمن یعنی مکہ کین کافرن کرہ ہار ہنسائی یہ تمہد کہ کاتیاہ لوکھ کر آسہ تمن برو تھہ ہلاک کھر و انکارہ سبہ اہندیو مکانو ۷ شہر و منزہ ہجندہ تم آذہ شہر شامہ کس سفرس اندر یوان گولھان تمو جا یو منزہ گذران۔ پز پاتھ آتھ منز چھہ صاف صاف نشانہ یر کتھ ہند کہ اللہ تعالیٰ چھہ کھر س ۷ کافرن شرکس ۷ مٹر کن پیٹھ بیزار کیا تم چھنا تمن تباہ و برباد گاتین لوکن ہند حال بوزان دون تمن ۷ چھہ قیامت ۷ مرنہ پتہ بیہ زندہ سپدس متعلق اَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ کیا تم چھنا و چھنا کہ اس چھہ خشک زمینس کن آب واتہ نادان دریاؤن ہند یا ہار کتھ تمہہ پتہ چھہ اس تمہہ سیت سہ زراعت کھار ان یرہ منزہ چھہ چار پابیہ تم پانہ ۷ کیوان چھہ۔ کیاہ تم لوکھ چھنا تمہہ سانس کمال قدر تس کن روز مرہ و چھنا۔ چھہ پاتھ کیاہ کروکھ اس مردہ بیہ زندہ۔ تو پتہ کڈو کہ زمینہ منزہ۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ

# الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِيمَانُهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ﴿۴۹﴾ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتظر إِنَّهُمْ مُنْتظَرُونَ ﴿۵۰﴾

صِدِّيقِينَ تم کافر چه و نان کر آسہ بیمہ فیصلک دودہ ہر گاہ تہہ پوزوند دن چھوہ **قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ**  
**الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِيمَانُهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ﴿۴۹﴾ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتظر إِنَّهُمْ مُنْتظَرُونَ** فرما دیو کہ  
 یار سول اللہ فیصلہ کہ دودہ دیہ نہ کانسہ نفع نہ فائدہ تمن کافران پڑھ کران تمنز بیہ بیہ نہ تمن تمہہ دودہ نہ  
 قسمہ مہلت ونہ نہس پھر و تہہ روی مبارک چن تمن نشہ یار سول اللہ۔ تمن تمنز ان ہند نہ کرو تہہ کانسہ  
 خیالہ بیہ کرو تہہ خدایہ سندہ حکم نہ فیصلک حقہ انتظار پیشک تم نہ چھہ تمہہہ تکلیف و ضرر زک انتظار  
 کران۔





## سُورَةُ الْأَحْزَابِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنْ  
 اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝۱ وَأَتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ط  
 إِنْ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝۲ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ  
 وَكِيلًا ۝۳ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ای پیغمبر خدا تمہ  
 کھوڑو حض خدا انس بیہ مہ کھوڑو کانسہ۔ کافرن یم نن پاٹ دئس خلاف چھہ بیہ منافقن یم کافرن سیت  
 خلق چھہ جہدس ونس نہ ہز کرو اعتبار۔ جہزہ آتھہ مہ حض مانوبے شک اللہ تعالیٰ چھہ سو روی زلنہ وان پور  
 حمدہ دول۔ جہد ساری حکم چھہ فائدہ سیت برت وَأَتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنْ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 خَبِيرًا جہہ پچو تمی حکمہ موجب ئس توبہ کن وحی سوزنہ یوان ہتھہ، جہدس پروردگارہ سیدہ طرفہ ای  
 لو کو پز پاٹ اللہ تعالیٰ چھہ پور زمانان نہ سورے یہ جہہ کران چھوہ توبہ اندرہ ئس اکھاہ سانس پیغمبرہ سنز  
 مخالفت کرہ تمس سیت انزلوہ اس پانے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا بیہ کرد توکل خدا انس  
 پیٹھہ۔ پس چھہ اللہ تعالیٰ جہز کام پورہ کرہ دن۔ اتھہ مقابلہ بیچہ نہ چلتھہ تمن لوکن ہند کانسہ تدبیر۔ معنی  
 پچو حقیقی پچو زان تو پتہ تمسزہ طلاق ونہ آمرہ زمانہ سیت شتھر کرہ نس پیٹھہ طعنہ زنی کرن اوس قیتھہ لفظ  
 چیزاہ مشہور، تھہ پاٹھہ چند آتھہ موج دن یا ماجہ سیت تشبیہ نس پیٹھہ نکاح ڈھین اوس خیال کرنہ یوان  
 باہر گاہ کانسہ شخصہ اوس سینہاہ ہشیدہ نہ عقلمند آسان دپان آس اس چھہ زہ دل سینس منز یمن تر شون  
 تنھن ہند اصلاح کور اللہ تعالیٰ ان فرموون مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَأَقْسَمُ مَنْزُكَرَنہ  
 اللہ تعالیٰ ان کانسہ ہندس سینس منز زہ دل پیدہ تھہ پاٹھہ فرموون وَمَا جَعَلَ آذُنًا كَمَا آتَىٰ نَظَاهِرُونَ

أَرْوَاحِكُمْ إِلَىٰ تَظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَأَجْعَلْ أَدْعِيَاءَكُمْ  
 أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ  
 يَهْدِي السَّبِيلَ ۝۱۰۱ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ  
 فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَ  
 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِنْ مَتَّعَدَّتْ قُلُوبُكُمْ  
 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۱۰۲

مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ ان ہمزہ زینہ یمن سے تہ ظہار چھوہ کر ان یعنی پنہ نین محرمات  
 سے تہ چھو کہ تشبیہ دو ان تہ محمد سہ ان نہ کہ نہ سے تہ ہمزہ ماجہ وَأَجْعَلْ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ جیسے پانٹھ  
 کہ نہ اللہ تعالیٰ ان جہد مکہ پتو حقیقتاً جہد سے پتوے ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ یہ تہ تہ ہمزہ ہجہ صرف  
 جہد یو چاشیہ ونہ یو ان۔ یمن نہ واقس سے تہ کانہ مشابہت ہجہ بلکہ ہجہ غلط تہ ہجہ کانہ واقی امر اہ  
 سہ ان۔ لہذا مکہ پتوے سزہ طلاق ونہ آمزہ زمانہ سے تہ نکاح کر نس پتوے طعن و تشنیع کرن ہجہ محض  
 جمل وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ اللہ تعالیٰ چہ پرتہ فرماوان۔ سنی ہجہ سزہ تہ  
 باوان۔ چنانچہ سمن ترین غلطین ہند اصلاح کور اللہ تعالیٰ ان یلہ نہ تم واقس منز جہد پتوے جہد۔ بس نہ  
 آسو تہ تہ مکہ مال سند پتوے وان اَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ مکہ پتوے آسو تہ  
 ناردوان پنہ نین حقیقی مالین سمن نسبت کرت سوی ہجہ زیادہ انصاف تہ خدا یس ہجہ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا  
 آبَاءَهُمْ فَاخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ہر گاہ نے توہہ معلوم آس جہد مال تلہ گئے تم جہد دینی  
 ہا آستہ یہ گئے تم جہد دوست نہ رفیق۔ تمی مناسبت آسو کانہ موزوں لفظ استعمال کرت تم  
 آلودوان وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ توہہ جہد کانہ قصور ہر گاہ تہہ اتہ منز منہ وقتہ  
 وشفہ گروہ وَلَكِنْ مَتَّعَدَّتْ قُلُوبُكُمْ ہر گاہ تہہ زانتہ کرتہ عمداً قصد اتہ چیز کر یو ملہ چہ گوناہ۔  
 ہر گاہ تمہہ گوناہ ہجہ توہہ نہ استغفار کرو۔ تہہ کردہ اللہ تعالیٰ مغفرت۔ کیاہہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجَهُمْ وَأَوْلِيَاءَ أَرْحَامِهِمْ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ  
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ  
تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿۳۳﴾  
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمَنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ  
وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿۳۴﴾

اللہ تعالیٰ چھ سینچاہ مغفرت کرہ دن سینچاہ رحم کرہ دن اَللّٰہِیُّ اَوْلٰی بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ  
تغییر برحق پنچہ زیادہ تعلق تھاوان باایمان سیت تہند یوپانو خودہ کیا زہ شخصہ سندپان ہر گاہ پنچہ آسہ میلہ  
بچہ ظاہرے کہ سہ پنچہ بد خواہ اسند۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم بچہ خیر خواہ باایمان  
ہندہ خاطرہ ہمیشہ رت یڑحان۔ ہر گاہ شخصہ سندپان جانے آسہ توتہ ماہنچہ تمس خبر سارنے چیزن ہنز  
تھہ تھہ منز پنچہ تمس نفع ۛ فائدہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمین پنچہ اللہ تعالیٰ ان سارنے  
منفید ۛ نافع چیزن ہند علم عطا کورنت۔ بہر حال تہندہ طرفہ پنچہ تقویٰ نفع۔ لہذا پنچہ تہندی حق پانہ خودہ  
ۛ زیادے۔ تھی نوکھ گوہن تھے زیادہ تاٹھ آسن قبیلہ کرنہ خودہ ماس ماجہ ہندہ خودہ بلکہ پندہ پانہ خودہ ۛ۔  
وَازْوَاجَهُمْ اَمْهَتُهُمْ تہندہ ازواج طاہرات پنچہ باایمان ہنزہ والدہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ  
وسلم تہندہ معنوی بابہ صاب آسن پنچہ لازم کہ تہندہ ازواج طاہرات گوہن آسنہ باایمان ہنزہ معنوی  
والدہ ووجوب نفس اندر وَاَوْلِیَاءَ اَرْحَامِهِمْ بَعْضُهُمْ اَوْلَىٰ بِبَعْضٍ بیہ چھ باایمان ہند قرہی رشتہ  
دار اڈاؤین زیادہ حقدار وراثتس اندر فِي كِتَابِ اللّٰہِ خدایہ سنزہ کتابہ اندر یعنی تہندہ شرعی حکمہ  
موجب مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُهَاجِرِیْنَ باایمانو خودہ بیہ مہاجرو خودہ اِلَّا اَنْ تَفْعَلُوْا اِلٰی اَوْلِیَائِكُمْ  
مَعْرُوفًا مگرے تہندہ پنہ نمین دوستن نسبت کانہہ احسانہ کردتھہ تہندہ کانہہ حرج یعنی بخشایشہ پانٹھے یا  
وصیہ پانٹھے دیوکیہہہ چیزاہ تمین كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا یوہے حکم پنچہ لوح محفوظس اندر  
لیکھندہ آمت یعنی وراثت پنچہ رشتہ دارنے اندر جاری کرنہ اِلَّا اَخَذْنَا مِنَ النَّبِیِّیْنَ مِیْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ

## لَيْسَ لِلصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَكُمْ جُنُودُ

وَمِنْ ثَمُودَ وَآلِ رَيْحَمَ وَمُوسَى وَهَارُونَ إِذْ قَالُوا لِمَنْ هَذَا قَوْمٌ تَبَتُّوا لِهَذَا قَوْمٌ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ دِينٌ قَبْلَ هَذَا قَوْمٌ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَوْمٌ كَانُوا يَسْتَكْبِرُونَ

یہ آسہ روٹ عہد پیغمبرانِ نبیہ خاص کر ت توہہ نبیہ یار رسول اللہ۔ یہ کوح علیہ السلام نبیہ یہ ابراہیم علیہ السلام یہ موسیٰ علیہ السلام یہ عیسیٰ علیہ السلام نس مریم علیہا السلام سند فرزند چھ۔

تھہ تھہ پیٹھ کہ بندگی کرو خدا یہ سز۔ یہ دیولو کن ۲ ناد تہزی بندگی ۲ عبادتس کن۔ یوہے عمد روٹ

آسہ تمن نبیہ مضبوط عمدہ لَيْسَ لِلصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا تھہ اللہ

تعالیٰ تحقیقات کرہ قیامت دوہ پز یارین نبیہ یعنی پیغمبرانِ نبیہ تہدہ پز یوک یہ سیت تہد شرف ظاہر

سپدہ یہ سپدہ حجت ۲ دلیل قائم منکر پیٹھ ای اندرہ سپد ثابت صاحب و جس پیٹھ تھہ واجب

و جس اتباع کرن۔ صاحب و جس درای یم چھ تمن پیٹھ چھ واجب صاحب و جس سند اتباع ۲ پیروی

کرن۔ یہ چھ اللہ تعالیٰ ان کافرین ۲ مخرن ہندہ خاطرہ تیار تھو دست دگ ۲ دو دکلمہ ان عذاب امہ پتہ

چھ اللہ تعالیٰ فرماوان اکھ واقعاہ سہ گوئیہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمو کور قبیلہ بنی

نضیرک یہود مدینہ شریفہ نبیہ جلا وطن۔ تمن سپد حکم مدینہ شریفہ منزہ نیرنگ۔ توپتہ سونہ راو تمو

عربک مختلف قبیلہ قریب وہ باہ ساس لو کہ مدینہ شریفہس پیٹھ حملہ کرنہ خاطرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ

وسلمو کور حکم کہ مدینہ شریفہس انداند کھنو خندق۔ تمن ہندس کھنہ نس اندر بنفس تموپانہ ۲ کام

کر۔ میوسارک بندہ پھز اوک اکس رتمس تان رود تم مدینہ شریفہس محاصرہ کر تھہ۔ تھہ منز آس کنہ کنہ

جایہ دورہ دورہ لڑائے ۲ سپد ان بالآخر کر اللہ تعالیٰ ان مسلمانن یاری۔ ظاہر پاشھ سپد اکھ تیز ہوا سم

کافرین ہند خیمہ دینر تھہ دست۔ خصمن ہنزہ رزہ رخن باطنہ پاشھ سوزن ملاکن ہنز لشکر سمو کافرین چھلہ

چھاگر کر۔ تم پوش نہ ژالہ نس۔ تمو کھیو بالکل کھکت۔ تھہ جھگس چھ دنان جنگ احزاب۔ حیازہ

مختلف قبیلہ آس آست جنگ کرنہ یہ جس دنان جنگ خندق حیازہ مشورہ حضرت سلمان فارسی

آی بجگم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریفہس انداند خندق کھنہ نہ۔ امہ جنگ نبیہ فارغ

سپد سپد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودن ہندس قبیلہس بنی قریظہس سیت جنگ کرنس کن متوجہ۔

کیازہ تمو اوس خلاف معاہدہ بنی نضیران مدینہ شریفہس محاصرہ کرنس اندر مددگورمت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا أَلْمَتْهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ يَمَازُجُوكُمْ  
بِصِيرَاتِهِ ۖ إِذْ جَاءُوكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ  
زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ  
الظُّنُونًا ۗ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ۝  
وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا  
اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ۝

امنوا اذ كنوا اذ انعم الله عليكم اذ جاءكم جنودكم فارسلنا عليهم ريحا وجنودا المتوهم اى باليمانوشتمس  
پاودالله تعالى سز سوغت يوسه تم توبه عطا كر۔ يه ساد توبه پييه دشمن هند واريه فوج آئے حملہ كرنه  
خاطرہ۔ پس سوز اسه تمن پييه تيز واوبه سبه فوج ملاكن هند نيس نه توبه بوزنه اوس يوان وكن الله  
بما عملون بصيرا الله تعالى اوس جهد تم سارى تدبير د جهان يم شبه تم ساد كر ان آسوه خندق  
كهن يه بويه ثابت نه مضبوط روزن كفرن بنده مقابله خاطره به دهجه اوس الله تعالى خوش گوهان توبه  
پييه راضى سدان نه توبه مدد كر ان يه واقعه سهد تم ساد اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل  
منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا دشمن آي توبه پييه  
حملہ كرنه توبه پييه كن نه يعنى ميدانكه هير مه طرفه توبه بون كن نه۔ يه يله خوفه سبه جهز و اچهد دره لجه  
دشمن كن بيه آسوه وانجه واثر مژه هر ين پييه بيه آسوه نجه خدائس متعلق عجيب عجيب مختلف خيال كر ان  
هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا اى وقت آيه آزمائش كرنه بايمان۔ بيه آي تم دنه ونه  
دنه دنه سيمناه سخت واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا  
بيه يه ساد ونه لكب منافق۔ بيه يمن لوكن هند ين دلن منز نفاق نه شج بيارى اس اسه سبت نيس وعداه  
خدائس نه جهد بنمبرن كور مت اوس نه اوس نه مگر دحوكه نه فریب واذ قالت طائفة منهم يا اهل  
الكتاب لا مقام لكم فانرجعوا بيه يله جهزى اكه منافقن هنز جماعت ونه لچ اى مدينه كيولو كو توبه يه كونه

يَتْرِبَ لِمَقَامِكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنَ النَّبِيِّ  
يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا  
فِرَارًا ۝۱۴ وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا تَمَّ سَبِيلُ الْفِتْنَةِ  
لَأَتَوْهَا وَمَا تَلْبَثُوا فِيهَا إِلَّا سَيْرًا ۝۱۵ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا لَللَّهِ  
مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الدُّبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ۝۱۶  
قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِن قَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا  
لَأَسْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝۱۷ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِن

دشمنہ سند مقابلہ کرتے تھے لہذا بھیر پوت گڑھوں میں گروے واپس  
بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا یہ بیوت کہ جہاں تو اندر رہی کر تمہیں سب سے واپس  
ہند اجازت نہیں۔ تم اس دہان بیشک سان گروے چھ غیر محفوظ حالانکہ تم غیر محفوظ آس نہ مگر تم آس  
یڑھان امی ہمانہ ڈلن وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا تَمَّ سَبِيلُ الْفِتْنَةِ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلْبَثُوا فِيهَا إِلَّا سَيْرًا  
ہر گاہ تم شہر س منز آہتہ شہرہ کیو طرف نو کن کا نہ غنماہ دشمنانہ و تلخہ یہ پہ۔ تو پتہ یہ ہاڑھانہ تمہیں  
فتنہ نہ فساد اسلا س خلاف برپا کرن ضرور سپدہ ہن تم گروہ ہاڑھانہ تلخہ تلخہ سیت شامل تو پتہ گروہ ہن  
نہ تلخہ منز مگر کی ہاڑ۔ یعنی گھرن منز روزہ ہن نہ زیادہ کاس وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا لَللَّهِ مِنْ قَبْلُ  
لَا يُولُونَ الدُّبَارَ حالانکہ سمولو کو آوس عمد گورمت امیہ برو تلخہ خدا جس سیت کہ تم آسن نہ ہوت  
بھیر تلخہ ڈلان وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا خدا جس سیت جس عمد کرنہ آست امیہ تمیک یہ ضرور  
بازندس کرنہ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِن قَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَأَسْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا تمہ فرما یو کہ  
یار سول اللہ ہر گز وہ نہ تو بہہ کا نہ فائدہ ڈلن ہر گاہ چہ ڈلو مرنہ نہیں یا قلمہ نہیں۔ ہر گاہ ڈلو نہ، تو نہ تلونہ  
چہ زندگی ہند فائدہ مگر کم سی کاس کیا زہ آخر چھو مرنہ ہے قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِن

أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ  
 اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ  
 لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ أَيْشَعَةً  
 عَلَيْكُمْ ۝ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يُنظَرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ  
 أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ  
 سَلَقُوكُمْ بِالسِّنَةِ جِدَادٍ أَيْشَعَةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا

أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً فرماد یو کہ خبہ یا رسول اللہ اے لوگو تمہے اکھاہو یہ کہ توہم پہاوت خدا نسی  
 بعد ہر گاہ سبہ تمہدہ خاطرہ بڑھہ کانسہ سختی یا لہہ اکھاہو یہ کہ تمہ سختی دانہ تاوتھ ہر گاہ خدا یہ سبہ ارادہ آسہ  
 توہم نسبت علمہ مر بانی ہند وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا بسن نہ تم پندہ خاطرہ  
 خدا نسی ورائے کانسہ دو سختس نہ کانسہ مددگار س قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ  
 هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا اللہ تعالیٰ بٹھہ توہم منزہ تمہ منافقین پور زمانہ اسم نین  
 لوکن بٹھہ جمادس منز شامل سپد نہ بٹھہ پتھہ زمانہ بیہ ہم پندہ نین بائن و نان ہتھہ آسہ بعدہ ابو جمادس نہ  
 سپد شامل تم چھہ تیت بزدل کہ پاندہ ہتھہ لڑا یہ منز شامل سپد ان مگر کمی۔ تھہ منزہ ہتھہ نہ آسان  
 نیت صاف أَيْشَعَةً عَلَيْكُمْ بنیل چھہ تم خبہدہ ہتھہ تمہہ شمولیت اندرہ ہتھہ چھہ غرض آسان کہ  
 مسلمان گوڑہ نہ پورہ حصہ مال تمہک ترن۔ آسہ روز و نیل برائے نام شامل ہتھہ آسہ ہتھہ لا کہ مال تمہہ  
 حصک حق دارینو فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يُنظَرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ  
 مِنَ الْمَوْتِ اودہ یلہ خوفک وقت و اتان بٹھہ تمہ سادہ ہتھہ کہ خبہدہ چھان تم توہم کن آر زمانہ پانٹھہ نظرہ  
 ودان۔ اچھہ جنزہہ بٹھہ نزان آسان۔ تس شخصہ سند پانٹھہ نسی مرضن ڈھٹھہ پھیر مڑ آسہ قَدْ يَعْلَمُ  
 اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ جِدَادٍ أَيْشَعَةً عَلَى الْخَيْرِ اودہ یلہ خوف ہتھہ خطرہ ڈالان بٹھہ تمہہ سادہ ہتھہ تم  
 توہمہ تیز زیوہ سیتہ ایذا ودان یعنی بچھہ تمہہ و نان سیناہ حریس ہتھہ تم مال غنیمت حاصل کرہ نسی پیچھہ

فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝۱۹ يَحْسِبُونَ  
 الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوْنَ أَلْوَانَهُمْ  
 يَادُّونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ آبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا  
 قُتِلُوا إِلَّا قَلِيلًا ۝۲۰ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  
 لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝۲۱ وَلَمَّا رَأَى  
 الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ

توہم سیت چھکھہ یہ معاملہ خدا پس سیت چھ جہد معاملہ کہ اُولَئِكَ لَمْ يَذْهَبُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ  
 وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ایم کے تے سمو چھند گوڈہ بیٹھے ایمان اومت خدا پس۔ تمہ موکھہ بچھ کر مرہ  
 اللہ تعالیٰ ان جہزہ سارے عملہ بے کار تمن ہند ثواب تمن ہند قسمہ آخر تس منز حاصل سپدہ۔ یہ کتھ  
 بچھ اللہ تعالیٰ اس نیش آسان یعنی جہزہ عملہ بیکار کرنہ۔ جہزہ بڑولی ہنز حالتھ بچھ اڑھ کتھ یَحْسِبُونَ  
 الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا تمن بچھ گمانہ کہ دشمن ہنزہ لشکرہ چھند ونہ واپس گا مرہ۔ حالانکہ تموہ بچھ ہن  
 محاصرہ کتھہ غمت ۝۲۰ وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوْنَ أَلْوَانَهُمْ يَادُّونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ آبَائِكُمْ  
 وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قُتِلُوا إِلَّا قَلِيلًا ہر گاہہ دوبارہ دشمن ہنزہ لشکرہ واپس یں تم کرن پتھہ خاطرہ پسند  
 کہ گامن اندر روز تھہ آسن کران جہد حالات میں لوگن بچھہ دریافت، غالب کتھہ گووہ مغلوب کتھہ  
 گوو پانہ سپدہ ہن نہ جھہ کین مشکلاتن شامل ہر گاہہ بالفرض توہہ سیت جتس شامل ہ روزن توہہ کرن نہ  
 دشمن ہند مقابلہ مگر کمی۔ بل ہونہ خاطرہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ  
 يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا واقعی بچھہ جہدہ خاطرہ ای مسلمانو پیغمبر خدا جتس اندر  
 ثابت قدمی خاطرہ اکھ عمدہ نمونہ اکھ۔ توہہ اندرہ تمن لوکن ہندہ خاطرہ ایم امیدہ بچھہ تھوان خدا پس  
 سیت ملاقات کرئج۔ بیہ ایم امیدہ بچھہ تھوان آخر تس اندرہ بڑہ ثوانج، بیہ خدا یہ سند یادہ بچھہ کران  
 سیٹھاہ زیادہ تمن لوکن پڑہ کہ پرتھہ معاملس اندر حرکت دسکو نس نشست ویر خواستس اندر ہمت و



وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿۳۳﴾  
 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَبِمُمْ  
 مِّنْ قَضَىٰ نَجَبَةٌ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا بَدِيلًا ﴿۳۴﴾ لِيَجْزِيَ  
 اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ  
 يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿۳۵﴾ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمَنَّا لِوَآخِرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۝

استقلال اندر بکن تم جہدی قدمہ جہدی متاعہ و لکناراً المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا  
 الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايماناً وتسليماً بايمان کامل و جہد دشمن  
 ہنزہ واریاہ لشکرہ حملہ کر تھے یوان نہیہ لگے پختہ نہ موقعہ سمیک وعدہ اسہ تمومنت اوس خد لکن  
 یہ جہد پیغمبرن پوزاوس فرمومنت خد لکن یہ جہد پیغمبرن۔ یہ موقعہ پیش ینہ سیت ہر یونہ تمن مگر جہد  
 ایمان یہ جہزہ فرمانبرداری ہند جذبہ یہ وصف اوس سارنے با ایمان اندر مشترک بعضی اوصاف آس  
 بعضی با ایمان اندر مخصوص تمین متعلق پختہ فرماوان اللہ تعالیٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا  
 مَا عَاهَدُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ تَموعے با ایمان اندرہ جہد بعضی تم سمویہ پورہ کورسہ وعدہ جان ثاری ہندی نس  
 تمویہ کورمنت اوس خد ایس سیت فَبِمُمْ مِّنْ قَضَىٰ نَجَبَةٌ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا بَدِيلًا چنانچہ تمویہ  
 اندرہ کز بعضیہ پورہ ہن ذمہ داری یعنی شہید سپہ جنگ کران۔ بیہ جہد تمویہ اندرہ ہم تمویہ کس انتظار س  
 اندرہ جہد کہ کردانہ اسہ نہ امیہ شہاد جہد سعادتک موقعہ۔ تمویہ کورنہ تبدیل پنہ نس معاہد س اندر اکھ ذرہ  
 یہ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ یہ واقعہ سپہ سمہ تمویہ موکھ پختہ اللہ تعالیٰ پز یارس پز بیج مزدوریہ  
 وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ بیہ پختہ عذاب کرہ اللہ تعالیٰ سن مناطقن ہر گاہ نہ  
 پز جہد نہ دیہ تمین توبہ کر تمک توفیق إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا پز پاٹ اللہ تعالیٰ جہد ہمیشہ سیشاہ  
 مغفرت کرہون سیشاہ رحم کرہون تمین توبہ قبول کرن پختہ کینہہ بعید نہ دور وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ

وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ۝ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ  
 الْكِتَابِ مِنْ صَيَّاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا  
 تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۝ وَأَوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَ  
 أَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوُّهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝  
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا  
 وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأَسْرِحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝

کفر و بغیظ لازم آمد بتا الواخیرا الله تعالی ان کور بند قدرت سیت کافر دین مدینه شریفه نشه دشمنه بنتمه۔  
 تمن پیوند پله کنی۔ تم یه مقصده آمت آس نه مقصد سپد که نه پوره ژکه شریکچ پند نین کاژین۔  
 وَكَلَّمَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْغَتَالِ الله تعالی سپد کافی اتحه جنگس اندر با ایمان تمن پیه نه جنگ کرئج  
 ضرور تھے۔ جنگ نه کرنے کور الله تعالی ان کافرن هند فر دین وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا الله تعالی چه  
 همیشه سیضاه قوت دول سیضاه غالب تس نشه هتند کافرن آمد طریقہ نکست دین کینبه عجائب نه نوکتهاه  
 وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَّاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ  
 وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا بیہ سموائل کتابو یعنی یسودو سمو بد عمد بحر تھے کافرن بدود و حمت اوس تم وال الله  
 تعالی ان بیہ پند نیو قلابو اندره بون۔ یمن منز تم محصور اس۔ بیہ تروان جهندین دلن اندر سخت رعب نه  
 بیت توبه مسلمانن هند چنانچه سمو اندره مارو که توه بعضی لو که بعضی کرود که گرفتار وَأَوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ  
 وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوُّهَا بیہ کرود تمه وارث نه مالک الله تعالی ان جهندین زمینن بهر  
 جهندین گرن هند۔ جهندین مانن بهر بیہ تمه زمینک بهارنه توبه حکمت نه آسوه زاننه یعنی زمین خیرک  
 وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا الله هتھه همیشه پر هتھه چیزس پیته قدرت دول۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ  
 لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأَسْرِحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ای  
 بیفهم بر حق توبه فرماو دحض پند نین زمانن هر گاه توبه ژحانندان هتھوه دنیاء ج زنگی بیہ تمه زنگی هند

وَلَنْ كُنْتُمْ تُرَدُّنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالذَّارِ الْآخِرَةَ فَإِنَّ  
 اللَّهُ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۳۳﴾ يٰنِسَاءُ  
 النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفْ  
 لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿۳۴﴾  
 وَمَنْ يُقِنْتُ مِنْكُنَّ بِلَهٍ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا  
 تُوْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿۳۵﴾ يٰنِسَاءُ

سازو سامان تلہ پکومہ لہم بخوبی کہہ توہمہ دنیا ک مال و متاع عطا کر تھہ رخصت رہہ طریقہ۔ طلاق و مودہ  
 تھہ یہ نس خوش کردہ سہ نس گودھتہ کرو تہ حاصل دنیا ک سازو سامان۔ وَلَنْ كُنْتُمْ تُرَدُّنَ اللَّهُ  
 وَرَسُولَهُ وَالذَّارِ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهُ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا نئے چھوہ تھہ رَحمان  
 خدا تہ تھہ رسول یعنی یعنی موجودہ حالتے پیٹھہ کرو تھہ قناعت بیہ کرو اختیار عالم آخرت یعنی جنگ  
 تھو دور جہیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سند حرم محترم آسہ مٹو کہ چھیدہ خاطرہ مقرر کرنہ آسہ تھہ  
 نس یوسہ توہمہ اندر نیو کار آسہ تمسیدہ خاطرہ تھہ اللہ تعالیٰ ان تید تھو مژبہ مزدور۔ نوتان بوس نبی کریم ﷺ  
 سیدہ طرفہ حکم خدا ازواج طاہراتن کن خطاب آسہ پتہ تھہ اللہ تعالیٰ فرماوان تمن ازواج طاہراتن یٰنِسَاءُ  
 النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى  
 اللَّهِ يَسِيرًا ای ہڈس پیٹھہ سزو باڑوہ زمانو یوسہ اکھاہ توہمہ اندرہ کانسہ بے ہودہ کاماہ کہہ یعنی  
 تھہ معاملہ کہہ یہ سیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل تنگ تہ پریشان گوہن نس یہ آخر نس اندر  
 دوگن عذاب کرنہ تہ تھہ اللہ تعالیٰ اس آسان۔ نس یہ سہ نہ تہ لہہ کانسہ چیز تھہ رُتھہ وَمَنْ يُقِنْتُ  
 مِنْكُنَّ بِلَهٍ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا تُوْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا بیہ یوسہ  
 اکھاہ توہمہ اندرہ فرماں برداری کہہ خدا یہ سز یہ سز س پیٹھہ سز یہ کہہ رُتھہ عمل نس و مواس مزدور تہ  
 دوگن یہ تھہ آسہ تمسیدہ خاطرہ عز تک روزی تید تھو دست یٰنِسَاءُ النَّبِيِّ لَسْتُمْ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ

النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ  
 بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ كَوَلَامِعَرُوفًا ۗ  
 وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى  
 وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
 إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ  
 وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۗ وَادْكُرْنَ مَا يُثَلَّى فِي بُيُوتِكُنَّ

اتَّقِيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ كَوَلَامِعَرُوفًا  
 سزوز زانو توجہ چھو نہ عام زانو اندرہ کا نہ زمانہ ہشہ بلکہ چھ جہد مرتبہ سینچا تھو ہر گاہ تہہ پر ہیز گاری  
 اختیار کرو۔ پس گواہن نہ جہزہ دو پر مردان سیت نرم ترایہ نزاکتہ سان کتھہ کرنہ۔ یلہ کتھہ کرنج  
 ضرورت پیہ۔ ہتھنہ نہ ہتھنہ نس دلس منز پیچھ خیالمن ہنز بہارے آسہ تہہ نسبت پیچھ خیالنج خواہش  
 کہہ۔ بیہ آسہ کتھہ کران عام دستورہ مطابق۔ اشاروہ کنائو ورائے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ  
 تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى بیہ کرد تہہ قرار پنہ نمین گرن اندرہ۔ بیہ مہ آسہ برو تھمیا تھہ دوہہ مردان زینت  
 ہونہ خاطرہ شیرت ہیرت گرد منزہ ہیر نیران۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ  
 وَرَسُولَهُ بیہ آسہ سارے نمازہ ہر پاتھو ان بیہ آسوز کوہ لو اکرن۔ کیا زہ۔ ہمہ و شوے۔ جھہ اسلامک ہڈ نشانہ بیہ  
 کرد فرمانبرداری خدایہ سز بیہ تھندس تھنبرہ سز۔ جھند ساری احکام آسہ ہجانن یم احکام ہجانہ نس اندر ہتھہ  
 تھندوی قائمہ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا یم  
 احکام بیان کرنہ اندرہ ہتھہ اللہ تعالیٰ سند ارادہ کینہہ تہ مگر تہہہ ہتھہ نمین ہنز کثافت دُور کرن ای تھنبرہ  
 سند یو گروہ والیو بیہ چھ سہ یشھان تہہہ پاک و پاکیزہ کرن وَادْكُرْنَ مَا يُثَلَّى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ  
 اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ بیہ کردیا و خدایہ سند تم آیات یم پر نہ یوان چھ تھندین گرن اندرہ بیہ تہ عقلہ ہنزہ  
 کتھہ یمہ بیان کرنہ ہتھہ یوان یعنی احکام خد لو نندی۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا تہ تھوہ و خیال کہہ پز

مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿۳۳﴾  
 إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  
 وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ  
 وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَ  
 الْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ وَالْحَفِظِينَ  
 فَرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَ  
 الذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿۳۴﴾

پانچھ اللہ تعالیٰ چھ رازدان تس بخند سارچی پور خبر، لہذا گوئدہ ظاہر اوہا بلنا تمسیدین حکمن ہند تقیل کرن بیہ  
 گوئدہ تمسید یو ممنوع چیز و نشہ پتھ روزن **إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ**  
**وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ**  
**وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَ الْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ وَالْحَفِظِينَ فَرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ**  
**وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَ الذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا** بیشک مسلمان  
 مرد و مسلمان زنانہ ایماندار مرد بیہ ایماندار زنانہ بیہ پزیر مرد و بیہ ہنزیارہ زنانہ بیہ صبر کردون مرد و  
 صبر کردونہ زنانہ۔ بیہ خشوع و خضوع کردون مرد و بیہ خشوع و خضوع کردونہ زنانہ، بیہ خیرات و  
 صدقات کردون مرد و خیرات و صدقات کردونہ زنانہ، روزہ دار روزہ دار مرد و روزہ دار، روزہ دار  
 زنانہ۔ بیہ پنہ نمین سترہ جنن جاین راجھے کردون مرد و زنانہ، بیہ سینہا یاد خدا کردون مرد و سینہا یاد  
 خدا کردونہ زنانہ، یکن سار نے ہندہ خاطرہ بخند اللہ تعالیٰ آن بوڈ مغفرت و بد مزدور تیار تھاوڑ۔ **وَمَا**  
**كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا لِلْمُؤْمِنَاتِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ** بیہ ہمتہ کانسہ  
 ایماندار مرد و کانسہ ایماندار زنانہ عجائش یہ کہتہ ہنز کہ یلہ خدا کن بیہ خیرہ پیغمبرن کانسہ حکماہ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ  
يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ  
ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ۝ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ  
عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ  
مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا

جاری کور۔ اودہ کیاہ آسہ ہائس مردس یا زمانہ اختیار تھے حکمس اندر پندہ عنہ حکمہ سیت مد اخلت کر نچ یعنی  
برابری زانہ عن تھے حکمس تعمیل کرنے نہ کرن۔ بلکہ چھہ تمن واجب تھے حکمس تعمیل کرن ومن  
یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ہائس اکھاہ نافرمانی کرہ خدا یہ سندس پیغمبرہ سید عنہ حکمس پز  
پانٹھ سہ پیوندہ گمراہی اندر۔ یہ تہ نس چھہ لفظ مؤمن بکس عمومس اندر حضرت عبد اللہ عن تھش بیہ لفظ  
مؤمنہ بکس عمومس اندر حضرت زینب بنت تھش داخل بیہ امرئم بکس عمومس اندر حضرت زید بن  
حارثہ سیت نکاح کزن داخل۔ چنانچہ یم آیہ کریمہ نازل سپندہ پتہ سپدیہ نکاح منظور **وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي  
أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ** بیہ پاودہ ژتیس بلہ ٹبہ ای پیغمبر برحق بطور  
مشورہ دو تان آسودہ نس شخصس ہئس پیئہ اللہ تعالیٰ ان مہربانی تہ انعام کور کہ مشرف باسلام کروں تہ سہ  
دینی نعمت بٹھہ ، غلامی بٹھہ موکلودن تہ سہ دنیوی نعمت چھہ بیہ ہئس پیئہ توبہ تہ مہربانی تہ انعام کور وہ کہ  
توبہ کورون سہ آزاد بیہ کروں دنیج تعلیم بیہ کوروس پندہ تہ بھترہ ہمشیرس سیت نکاح امہ اندرہ چھہ  
مراد حضرت زید بن حارثہ ٹبہ آسودہ نس فرماوان ای زید بن آشین (یعنی بی بی زینب) ارٹن پانس بٹھہ  
پندہ نس نکاحس اندر سومہ تراوان نکاحہ اندرہ معمولی غلطیو سببہ۔ تمران غلطین عن مہ آس و چھان بیہ  
کھوڑ خدا ہئس تمسددین حقوقن اندر مہ کھرو کوتاہی تہ کمی **وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ** بیہ پاودہ ٹبہ تہ  
ژتیس سوکھہ تہ سہ ٹبہ آسودہ یار سول اللہ پندہ نس پانس منز پوشیدہ تھاوان۔ بٹھہ آخر کار اللہ تعالیٰ بخر اوہ  
وان لوس یعنی توبہ آس خاہش دل مبارکس کہ ہر گاہ حضرت زید بن حارثہ بھوڑ بھنوس طلاق دیہ میلہ کرہ  
بو پاندہ تمن سیت نکاح **وَتُخْفِي النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ** تہ آسودہ نہ سہ خیال بخر اوان لوکن ہنزہ

قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لَكِي لَّا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  
حَرْجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذْ أَقْضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ  
اللَّهِ مَفْعُولًا ۖ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرْجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ  
سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ۗ  
إِلَّا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا

طعن زنی سبب۔ جبہ آسوہ لوکن ہنزہ طعن زنی کھوڑان۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اوس زیادہ سزاوار کہ جبہ کھوڑا  
ہوئس۔ چونکہ جتھ معاملس اندراس فی الواقع اکھ دینی مصلحتہا۔ لہذا نہ کرو جبہ کا نہ اندیشہ لوکن ہنزہ  
طعن زنی ہند فلما قضی زید منہا و طرا زو جناکھا لکی لایکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم  
إذ اقضوا منہن و طرا اویہ یلہ زید بن حارث بن کور بن مقصد ۛ تم دیت بی بی زینبس طلاق سمیک  
سہ بروٹھ پیٹھ خواہش مند اوس تو پتہ موکلے یہ تمس پور عدت اسہ کور نکاح تو بہہ یار رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وسلم تس بی بی زینبس سیت یو ہے گوونکاح آسانی نھنہ امہ سیت آئندہ با ایمان کا نہ حرج واقع  
سپدہ پنہ نمین منگن ہنز ان زنان سیت نکاح کرنس اندر یلہ تم مقصد ۛ تمس زہر بن مقصد پورہ آس  
کران۔ وکان امر اللہ مفعولاً خدایہ سند حکم اوس بہر حال پورہ سپدہ دن تھہ پٹھہ پانٹھے گھوہہ ہا بدل  
مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرْجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ کا نہ حرج ۛ الزام اوس  
تمس پیٹھہر بر حقس سو کام کرنس اندر یوسہ مقرر آس کر مو تہبہرہ حقہ اللہ تعالیٰ ان خدایہ سند چھہ  
یو ہے دستور رودت تمس پیٹھہر ان اندر ییم بروٹھ گذرے مت بہتہ۔ کہ تمس یوہ کامہ ہند حکم آو کرن  
سودہ کام آس تم کر ان کا نہ ہندہ طعن زنی ہند خوف کرنہ ورائے۔ پٹھے پانٹھے چھہ تمس پیٹھہر بر حقہ سند  
شان ۛ وکان امر اللہ قدا مقدورا خدایہ سند بن یمن پیٹھہر ان ہنزہ امہ تمسچہ یم کام آس تمس سارے  
کامین اندر ۛ اوس خدایہ سند حکم بروٹھ پیٹھے مقرر کرنہ امت ۛ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ  
یم ساری گزشتہ پیٹھہر آس تے یم زن پرورد گارہ سہہ احکامات آس لکن دانہ

اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ  
 وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ  
 عَلِيمًا ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝ وَ  
 سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝ هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ

ہوں۔ یہ اس لئے وقت تبلیغ قوی خیر و مامور سپہان۔ تمہارا آس تبلیغ قوی کران۔ یہ سارا تبلیغ  
 فعلی خیر و مامور سپہان آس تمہارا آس فعلی تبلیغ کران۔ شمس = سپہ حکم نبی کریم کہ برو شمس  
 اکہ بے دلیل رسما پھر اوٹھی پند فعلہ سیتے سے گو کہ معنی پچوے سزہ زمانہ سیتے کروٹے عملاً نکاح ہی  
 سیتے پھند یہ اکہ جاہلیتک بے دلیل رسما وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ تم پیغمبر آس  
 اللہ تعالیٰ اس کھوڑان بیہ آس نہ کانہ کھوڑان اللہ تعالیٰ آس درائے حمیدہ مزید تسلی  
 خاطرہ آس وہان وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اللہ تعالیٰ ای پھند اعمالن حساب ہینہ خاطرہ بس۔ دون کیاہ  
 پھند بیہ کانہ کھوڑان توہم ہم لو کہ تعمیل احکام خداوندی کرنس پینہ طعنہ زنی کرن تمہن = کہہ اللہ تعالیٰ  
 عذابس گرفتار۔ لہذا سپہ و خیر تمہن = پریشان مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ  
 وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا حضرت محمد ﷺ چھونہ توہم مرد اندرہ کانہ اسند بابہ  
 صاب۔ زید بن حارثہ سندے کتھ پانٹھے آس ہن پیغمبرہ سندہ روحانی مرفی آس نہ موکہ چھ تم توہم سارنی  
 ہندے روحانی بابہ صاب اتھ روحانیس منز چھ تمہن کمالک درجہ حاصل کیاہ تم چھ  
 سارنے پیغمبرن ختم کردون۔ یعنی سلسلہ نبوتس آہ حمیدہ سیتے مہر کرنہ دن بیچ نہ آئندہ تمہن پند  
 کانہ پیغمبرتھ۔ حضرت عیسیٰ یہ آخر زمانس اندر عیثیت اکہ امتیاء، بحیثیت پیغمبر یہ نہ۔ اللہ تعالیٰ چھ  
 پر پھند چیز کہ عدم وجود مصلحت پورہ زندون۔ یہ معاملہ کہ وجود مصلحت = صحیح آس تس خبرے ہی  
 آویہ معاملہ وجودس اندر بی بی زیدہ سند نکاح پند با حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
 آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا اے ایمانوا کہہ کرو خدا یہ سندین عام احساناتن ہندیا دیہ بڑا احسانک شکر  
 گذاری سے گو وجود مبارک حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہ احسانک = کرو شکر ادا خدا یہ



لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿۲۳﴾  
 تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ۗ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿۲۴﴾ يَا أَيُّهَا  
 النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿۲۵﴾ وَذَاعِبًا إِلَى  
 اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿۲۶﴾ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّن

سند کرد بکثرت یاد محمد بن سارنے احکامن کرو قلیل۔ وَ سَيُخَوِّهُم بِكْرًا وَأَوْسِلًا۔ بیہ آسوپاکی خہند  
 کران یاد صمکس ۛ شامس ۛ یعنی ہمیشہ دلہ سیت ۛ زیوہ سیت ۛ بدنہ سیت ۛ هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ  
 وَمَلَائِكَتُهُ يُخْرِجُكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ سہ پروردگار ہتھ ہتھ رحیم ہس  
 توہہ پیٹھہ رحمت ہتھ سوزان پانہ ۛ بیہ خہندہ حکمہ خہندہ ملایک ۛ ہتھہ توہہ اُمرہ رحمتہ برکتہ کذوہ وہ  
 جمالت و ضلالت کیوٹو منزہ علم و ہدایہ کس گاش کن امد اندرہ سہ ثابت کہ سہ پروردگار ہتھ ہمیشہ ایمان  
 دارن ہندہ حقہ رحمتہ دول دنیاوس اندرہ۔ آخرتس اندرہ ۛ آسہ خہنز رحمت تمہن شامل۔ چنانچہ  
 تَعِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ۔ تعظیم و تکریم خہند آسہ تمہہ دوہہ یمہ دوہہ تمہس سہیت ملاقات کرن۔  
 سلامتی سان سلام تی گوو سلام قولان من رب رحیم، حدیث شریفس منز چھہ کہ اللہ تعالیٰ فرماو جنتین  
 السلام علیکم یا اہل الجنۃ۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا۔ بیہ ہتھہ تے تیار تھاو متز عزت مزور خہندہ خاطرہ  
 جنتس منز یا ایہا النبی ای بڈہ پیٹھہر تے مہ حض سہ دول آزرہ معمولی کنیون لوکن ہند یو طعنوسیت  
 اگر یمن بے وقوفن خہند تھو مدرتہ در ہنٹھے ہتھہ یوان، متہ ای صکھہ، با ایمان یمہ رحمتہ ۛ مہر بانہ آسہ  
 عطا کرہ یمن ہند واسطہ ہتھوہ تے خہندین مخالفین یمہ سزاونہ خہندس بیانس پیٹھہ توہہ نش یمہ نہ تمک  
 ثبوت مہندہ کینہہ ۛ۔ ای سیت سہ ثابت کہ تے کہہ درجہ ہتھوہ آسہ نشہ مقبول ۛ محبوب اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ  
 بے شک آسہ ہز سوزو خہند یمہ تھدہ شاک پیٹھہرہ کہ خہند آسوقیامک دوہ شاہدا اُمتہ خاطرہ پانہ  
 سرکاری گواہ خہندی بیانہ موجب یمہ خہند فیصلہ کرن۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ کسی چھوہہ با ایمان بشارت ۛ  
 خوش خبری دوہون بیہ کافرن ہم کرہون وَذَاعِبًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا۔ بیہ سوزے وہ آسہ

اللَّهُ فَضْلًا كَبِيرًا ۝ وَلَا تَطِيعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعَاذِمُمْ  
 وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا  
 نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ  
 فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِ تَعُوهُنَّ  
 وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا

نہجہ لو کن نارودوونے معبود برحقس کن جہدی حکمہ یہ بشارت ہے ایم کرن ہے دعوت دے چھہ بواسطہ  
 تبلیغ۔ مگر بذات خود چھوہ نہجہ کمالا توہ جھدیو صفتو عاداتوہ عباداتو کہنے از سر تا پا ہدایتیک نمونہ آسوس  
 اندر اکھ پپہ کرہون ہے پرزلہ وان ژونگاہہذا تراوہجے ساری غم نہجہ روزو مشغول پندہ کامہ سیت سوگیہ  
 ہے کہ وَيُخَبِّرُ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْضَلَ كَبِيرًا۔ نوخوشخبری ایماندارن کہ جھندہ خاطرہ چھہ  
 پروردگارہ سیدہ طرفہ تمں پیئہ بوڈ فضل سپدہ وان جھہ پانٹھ روزو جہہ بیم کران کافرہہ منافقن ہڈوہ  
 عذابک وَلَا تَطِيعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعَاذِمُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ بیہ مہ مانو کافران  
 ہے منافقن ہنزہ تھہ بیہ مہ تکر و جھندہ تکلیف دنگ کانسہ پرول۔ ہرگاہ امیک خیال دل مبارکس منزہیہ  
 اعتماد کرو تمہہ وقتہ معبود برحقس پیئہ سہ زہجہ توبہہ پر جھہ ضرر نہجہ بس چھہ اللہ تعالیٰ کار ساز آہنہ کن  
 کافی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ  
 مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا۔ ای با ایمانویہ نہجہ با ایمان زنان سیت نکاح کرو تو پپہ دیو تمں طلاق جھہ  
 کرنہ ہے اتھہ لاگنہ یعنی تمں سیتہ ہم بستری کرنہ بروٹھے اوہ جھندہ توبہہ کانسہ حق تمں عدتس منز  
 تھاو نگ تاکہ گنزر او ہو نہجہ جھندہ عدتک دوہ یعنی تمں جھندہ عدتھے۔ تمں جھندہ پیار نوی۔ تمہہ بکن فوراً  
 بیس شخصس سیت نکاح کر تھہ فَمِ تَعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا۔ پس داتا دو تمں کانسہ  
 فاکدہ یعنی تمں دیو کینہہ لباس پوشاک حسب حیثیت۔ کینڈ جھاد تھہ کرو تمں رتہ طریقہ روخصتھہ۔  
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِنْ نِسَائِكَ اللَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

لَكَ أَرْوَاجَكَ الَّتِي اتَّيْتِ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ  
 مِمَّا آفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ  
 خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً  
 مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ  
 يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا  
 مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَرْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ  
 لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

اے بڑے پیغمبرہ بیشک اُسے کہہ حلال ٹھہرہ خاطرہ جہزہ تمہ زمانہ یرہ دن کنیس ٹھہرہ س خد قس منز حاضر  
 ہجہ۔ ٹھہرہ س عقد س قل ہجہ سن توہبہ مرہ بیت وہ بیہ تمہ زمانہ یمن نے مالک چھوہ سپہ مت ہ ملک  
 یمن یعنی کثیرہ یرہ دشمن زہد مال ٹھہرہ س اندر توہبہ اللہ تعالیٰ ان عطا کرہ مژہ ہجہ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ  
 عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ بیہ جہزہ پترہ پینہ، بیہ پو پچترہ پینہ، بیہ  
 ماترہ پینہ بیہ ماسترہ پینہ سمو خاندانی رشتہ دار زنانو اندہ ہجہ حلال توہبہ پینہ تمہ زمانہ سمو توہبہ سیت  
 ہجرت کر۔ وطن پن تراوتہ آیہ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ  
 يَسْتَنْكِحَهَا بیہ کر اُسے ٹھہرہ خاطرہ حلال سو بایمان زنانہ یرہ پن پان پیغمبر س یعنی توہبہ مرہ  
 درائے پیش کورتہ بخش۔ ہر گاہ پیغمبر س یعنی ٹہہ ارادہ کر ان چھوہ تس زنانہ سیت نکاح کرہ ٹک  
 خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ہم ساری حکم ہجہ خاص ٹھہرہ خاطرہ، بایمان درائے ٹھہرہ  
 خاطرہ چھ بے احکام قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَرْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ  
 عَلَيْكَ حَرَجٌ تخمین اُسے ہجہ معلوم تم احکام ہم اُسے فرض کرے بایمان پیٹہ زنانہ کثیرن ہجہ ہجہ  
 یہ گوواہی زہ کہ ژو روزانہ خو یہ زیادہ ہجہ اجازت نکاح کرہ ٹک کثیرہ ایڑہ خوش کرہ کچہ یہ ہجہ توہبہ

تُرْجَىٰ مِنْ نِسَاءٍ مِنْهُنَّ وَتُؤَيُّ إِلَيْكَ مِنْ نِسَاءٍ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ  
 مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقْرَأَ عَيْنَهُنَّ  
 وَلَا تَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا  
 فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۝ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ  
 مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ

کہہ قسمہ دقت سپہہ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللہ تعالیٰ ہمچہ ہمیشہ سیشاہ مغفرت کرہون سیشاہ  
 رحم کرہون نہ چہہ پنہہ رحمتہ سیت احکامن منز مناسب سولت فرماوان تَرْجَىٰ مِنْ نِسَاءٍ مِنْهُنَّ  
 وَتُؤَيُّ إِلَيْكَ مِنْ نِسَاءٍ سم ازواج طاہرات توبہ نہشہ موجود چہہ تمواندرہ چہہ توبہ اختیار تموندرہ اتس  
 کالس توبہ خوش کرہ پانس نشہ دور تھاون یعنی نوبت نہ وار نہ دن سو بیحیون توبہ دور تھاو تھہ یوسہ چہہ  
 یڑھیون پانس نشہ تھاون وار نہ نوبت تس عطا کرنے سو بیحیون توبہ پانس نہشہ تھوتھہ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ  
 وَمِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ہیہ یوسہ توبہ دوبارہ پانس نزدیک ان یڑھیون تموزانواندرہ تھہ خاص مد نہ  
 خاطرہ الگ آسوکھ تھومڑہ تھہ پیٹہ نہ چھنہ توبہ کانسہ گناہ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقْرَأَ عَيْنَهُنَّ وَلَا تَحْزَنَ  
 وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ یہ توبہ وارہ نہ نوبتس منز اختیار دسُن ہمچہ زیادہ نزدیک جہزن اچھن  
 شہیاد واسیہ خاطرہ۔ دلس سکون و قرار پادہ سپنہ خاطرہ ہیہ سپنہ نہ تمہ غم گین ہیہ سپنہ تمہ  
 رضامندی ساری تمہ سیت یہ توبہ تمس عطا کورہ مال منزہ یا الفت، محبت مای نہ شفقتہ منزہ۔ ای  
 مسلمانویم خاص احکام یوز تھہ تھنہ توبہ خیال گوشہ کہ ہم احکام کونہ سپنہ عام طور سار نے وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
 مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللہ تعالیٰ چہہ زانان نہ سورے یہ جہدین دسُن منز چہہ۔ اللہ  
 تعالیٰ ہمچہ ہمیشہ پنہہ نین مخلوقن ہند حال پور زانہ دن نہ چھنہ یہ اعتراض کرہون نین جلد گرفتار کران۔  
 کیاہہ نہ ہمچہ سیشاہ بردبار نہ تحمل کرہون نہ ہمچہ سزاہون یڑکال نہ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا  
 أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ ای پیغمبر برحق تھہہ خاطرہ نہ حضہ ہمچہ حلال از

حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  
رَّقِيبًا ﴿۵۲﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ  
إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا  
دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ  
لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ  
وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا

کہ پتہ نوہ زنانہ ہیہ محمد توبہ جہیز یہ موجودہ سارے زنانہ یا سمو اندرہ آجہ تراونہ تہ تمن بدل تمن  
زمانہ سیتے نکاح کرن اگرچہ جہد حسن و صورت سپد تن توبہ مر غوب تہ پسند **إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ**  
مگر بچہ حلال تہ جائز توبہ کثیرہ یعنی تہ زنانہ یمن تہ ملک یمن مالک سپد **وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ**  
**شَيْءٍ رَّقِيبًا** اللہ تعالیٰ چہ پر ہتھ چیز چہ **﴿۵۲﴾** **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا**  
**بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِينَ** ای با ایمانوا تہ  
مہ آسوا اذان نبی کریم **ﷺ** سندین کرن اندر جہرات نہار کن اندر مگر تلمہ علیہ توبہ نادیبہ دنہ کینہہ غذا کھینہ  
خاطرہ۔ نہ غذا کھینہ تہ گدھہ سن کھینہ کس و قفس پیٹہ۔ وقتہ بروٹھے گدھہ نہ سن تاکہ توبہ یہ نہ انتظار کرن  
غذا کس تیار سپد نس **وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ** **لِحَدِيثٍ إِنَّ**  
**ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ** لیکن یلہ توبہ ناداسہ یوان دنہ کہ غذا ہتھ تیار تلمہ آسوا اذان توبہ  
پتہ یلہ تہہ کھیتھ چیتھ آسوا موکلان تو پتہ گدھہ نیزان تہ گدھہ نہ تمن سیت یا پانہ وان تمن منز مشغول  
روزان کیاہہ تہ سیت چہ نبی کریم **ﷺ** تکلیف و اتان تم چہ توبہ نشہ مند چھان۔ تم ہتھ پانہ توبہ  
فرماہ تھہ بیان نیر تک **وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ** مگر اللہ تعالیٰ ہتھہ پڑتھہ ونہ نس اندر کانسہ ہند  
لحاظ کران۔ لہذا آو توبہ واضح طور حکم کرنہ بیہ چہ از کہ پیٹھ حکم یوان کرنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ  
و سلم سند ازواج طاہرات کرن توبہ نشہ پڑہ لہذا **وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ**

فَسَعَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ  
 وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا زَوَاجَهُ  
 مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ۝۵۴  
 يُبْدُو أَشْيَاءَ وَيُخْفِيهَا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝۵۵  
 لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ  
 وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَاءِيهِنَّ وَلَا

حجائب از کہ پیٹھیلہ تہہ نبی کریم ﷺ سندین ازواج مطہراتن نشہ کانسہ چیز آسہ مٹکن سہ اہو تمن نشہ  
 مکان پردہ نہر یعنی بے ضرورت پردس نزدیک سپدن تو پتہ تمن سیت تھہ کرنہ تہ چھ ممنوع لیکن  
 سخت مجبوری تہ ضرور چھہ وقتہ ہتھہ تھہ کرنہ جائز مگر تمن کن نظر دن ہتھہ جائز ذلکم اطہر لقلوبکم  
 وقلوبہن یہ چھہ ہمیشہ خاطرہ تھہدین دن تہ تھہدین دن بچھہ خیالا تو نہہ پاک و صاف روز گھہ آگہ بوڈ  
 ذریعہ۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا زَوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا یہ ہتھہ توبہ  
 جائز نہہ صور تس اندر پیغمبر خدایس تکلیف و اتا دن۔ یہ ہتھہ توبہ ہر گز جائز تھہدین ہا ژن یعنی ازواج  
 طاہراتن سیت تہہ پتہ تھہ وقتہ نکاح کرنہ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا یہ چھہ اللہ تعالیٰ اس نہہ  
 بوڈ گوناہ۔ تھہ پاشخی یہ گوناہ ہتھہ تھہ پاشھہ تھہ امیک زیوہ سیتہ تہ کرہ کرنہ یاد کس اندر امیک خیال کرنہ تہ  
 گوناہ إِنَّ يُبْدُو أَشْيَاءَ وَيُخْفِيهَا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا چنانچہ ہر گاہ تھہ نہ راوہ کانسہ چیز او یا  
 کھیتھہ تھہو اللہ تعالیٰ چھہ ہم دو شوے چیز پور زمانہ کیا زہ نہ ہتھہ پر ہتھہ چیز او پورہ زان دن۔ سہ وہہ توبہ  
 ضرور تھہ پیٹھہ سزا اسہ کس یمہ پر ڈک تہ تھہ ہک حکم بیان کور تہہ منزہ ہتھہ بعضے اشخاص مستثنیٰ تہ  
 لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا  
 نِسَاءِيهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ کانسہ گناہ ہتھہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندین ازواج طاہراتن  
 پنہ نمین مالین یا بیچون یا باین یا باپ تھرن، یا بینہ تھرن یا پنہ نمین زنانن یعنی مسلمان زنانن یا پنہ نمین

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَأَتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ

غلامن تہ کثیرن ایشہ بے پردہ بردنٹھ کن نیس تہ سٹھ کرنس اندر **وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا** ای نبی کریم ﷺ سزوزنا نونہ کورہ انکامن ہندس تعظیمس اندر کھوڑو خدا بس۔ عنہ حکمسن منز مہ کرد خلاف ورزی۔ بے شک سہ چھہ پرنتھ چیزس پیٹھ شاہد۔ ممکن پتھہ خلاف ورزی ہندس صورتس اندر دیہ سہ توبہ بہ سزا۔ **إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا** بے شک اللہ تعالیٰ بیہ جہد ملائک چھہ درود سوزن نبی کریم ﷺ پیٹھ ای با ایمانو تہ بہ سوز درود و سلام تمن پیٹھ بیہ کرو سلام رث سلام یعنی و بان آسوالسلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ و برکاتہ یلہ یہ آیہ کریمہ نازل سپد صحابہ صابو کور عرض نبی کریم ﷺ سندس خدس منز یا رسول اللہ خداین ہر کور اسہ حکم توبہ پیٹھ درود و سلام سوزنگ سلام کرن توبہ سو پتھہ اسہ دون پتھہ تاوے تو اسہ درود تھہ پاٹھے آسواسے پر ان توبہ پیٹھ فرمود کہ تہہ آسو پر ان اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ تعالیٰ سند درود پر ان گور حمت سوزن تمن پیٹھ یوسہ جہدس جہدس شانس مناسب اسہ ملائکن ہند درود سوزن گوو خدا بس سو خاص رحمت سوزن خاطرہ دعا کرن تھہ پاٹھہ اسہ حکم کرن توبہ خاص رحمت خاطرہ دعا کرن ملائکن ہندہ مہندہ سیت بیہ سانہ یعنی با ایمان ہندہ مہندہ سیت تہ دعا کرن سیت چھہ حضور نبی کریم ﷺ سندین مراتب عالیہ اندر ترقی سپدان۔ ترقی در جاتن چھہ کا نہ حدے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کور عام امتین حکم بانگہ پتہ دعا وسیلہ مہندہ تک حضرت فاروق اعظمس فرمود کہ جس گروہند وقت اشرف کما فی الدعاء اے عمر اسہ تہ تھوے زہ شامل پنہ نین دعاء ان اندر اسہ ساری اندر ہ سپد ثابت ڈینٹھ کیتھ تے اسہ انسان سیشہ تھوہ مرتبہ بول تہ مگر خدایہ سندس فضل و رحمتس کن چھہ پرنتھ وقت محتاج چنانچہ حدیث شریفس منز چھہ پانہ فرمودت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ دیہ نہ نجات پنکن عمل یو تان نہ رحمت خدا شامل حال

يُؤذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ  
لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ۝ وَالَّذِينَ يُؤذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  
بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۝ يَا أَيُّهَا  
النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ  
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ آدَتِي أَنْ يُعْرِفَنَ قُلُوبُ الَّذِينَ

آیس عرض آکھ کر نہ توبہ نہ دیر نجات عمل یا رسول اللہ فرمود کہ میں نے دین نہ نجات عمل یو تان  
نہ میرہ ہونہ میہ اللہ تعالیٰ پنہ رحمتہ سیت ولہ یعنی نو تھس زیادے محتاج خدا یہ سندس زیادہ رحمت کن  
جہدہ خاطرہ اللہ تعالیٰ اس درود و سلام مجھ نس اندر چھ درود پرہ ونس نہ پنہ حقہ فائدے فائدہ کیا زہ  
رسول اللہ تعالیٰ ان چھ فرمودت نس اکھاہ مہ پیٹھ آکھ درود پرہ اللہ سوزہ نس پیٹھ وہ رحمت  
إِنَّ الَّذِينَ يُؤذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا پڑی پانچے سم  
لوکہ ایذاون خدا ایس بیہ جہدس پیغمبرس ہاشائستہ کتھ ونہ سیت اللہ تعالیٰ کرہ تمس لعنتس گرفتار دنیا  
س منز نہ آخرتس منز نہ۔ بیہ چھ جہدہ خاطرہ تم تیار تھوونت ذلیل کرہ ون عذاب وَالَّذِينَ يُؤذُونَ  
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا کتھ پانچہ ہم لوکہ ایذاون  
با ایمان مردن نہ با ایمان زنانن جہدہ کا نہ جزم نہ قصور کر نہ ورائے پس بیشک تمو کل پانس پیٹھ  
بڑھ پڑیک نہ بڑھ ٹھیک بور يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ  
مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ای پیغمبر بر حق فرماؤ جہدہ پنہ نین ازواج طاہراتن بیہ پنہ نین صا جزا وین بیہ نین  
با ایمان ہنزن زنانن کہ کلہ نشہ آسن ہون کن الوند ترلوان پنہ نیو پوڑ ونہ ڈپو آندرہ آکھ حصہ  
پنہ نین تھمن پیٹھ ذَلِكَ آدَتِي أَنْ يُعْرِفَنَ قُلُوبُ الَّذِينَ امہ طریقہ آسن تمہ جلد پرزہ ناونہ یوان کہ یہ  
چھ شریف نہ نیک بخت زنانہ ادہ آسکھ نہ ایذاواتا ونہ یوان۔ امہ سیت آسہ سپدان  
فرق کینرن نہ آزاد زنانن اندر۔ اتھ تھس ستر کر نس اندر ہر گاہ کتھ وقتہ بلا قصد و ارادہ بے



وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۱۰﴾ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنْفِقُونَ وَ  
 الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ  
 لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿۱۱﴾ مَلْعُونِينَ  
 أَيَّمَا تَقْفُوا أَيْدِيَهُمْ وَأَقْبِلُوا نَقْتِيلًا ﴿۱۲﴾ سُنَّةَ اللَّهِ فِي  
 الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿۱۳﴾  
 يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عَلِمْتُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا  
 يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿۱۴﴾ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكٰفِرِينَ

احتیاطی سہوہ وکَانَ اللہ غفوراً رحیماً اللہ تعالیٰ چھ سینچاہ مغفرت کرہون سینچاہ رحم کرہون۔ تھہ  
 بے احتیاطی تہ کرہنہ درگذر تہ مغفرت لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنْفِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ  
 وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ہر گاہ نے منافق بیہ تم لو کہ  
 یہندین دن اندر شہوت پرستی ہند مرض چھ تے چھ کثیرن انان بیہ ہم لو کہ شہس منزاپزہ خبرہ  
 پھیلاوان چھ پنہ نیو پچھ کتھوتہ حرکتو تھہ پتھ روزن تیلہ ہس راوودہ تھی اس تمن پینہ اکہ نہ اکہ دوہہ  
 یعنی اُس کرودہ توہہ حکم تھہدہ خاطرہ شہرہ میر کڈنگ۔ تو پتہ تھکن نہ اوہ تم توہہ ککھ کل تھہ شہس منز  
 روز تھہ مگر کسے کالس مَلْعُونِينَ أَيَّمَا تَقْفُوا أَيْدِيَهُمْ وَأَقْبِلُوا نَقْتِيلًا تمن آسہ پر تھہ طرفہ لعنت کرنہ  
 یوان۔ یہ نُس تم لبندین حیس نُسین تم رند بیہ مارند تہ ژرند سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ یہ  
 پتھ خدایہ سُنہ دستور برو ظھمن مفسدہ شہری لوکن پینہ تہ جاری کرنہ آمت وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا  
 ژہ لبھ نہ خدایہ سندس دستورس تہ طریقس منز کانسہ ہندہ طرفہ عنہ قسمہ تغیر و تبدیل یَسْأَلُكَ  
 النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عَلِمْتُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ای تھہمہ برحق  
 ہم مفسر لو کہ چھ توہہ پر ژحان قیامتک کہ سو کر آسہ جہہ فرماو لو کہ جواب کہ تمہ وچ خبرہ تھہدہ خدایس

وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ۖ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وِلْيَاءًا وَلَا  
 نَصِيرًا ۖ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا  
 اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ۖ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا  
 فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا ۖ رَبَّنَا إِنِّيهِمْ ضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَتُمْ  
 لَعْنًا كَبِيرًا ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا  
 مُوسَىٰ قَبْرًا ۖ أَهْلَهُم مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ۖ

در اے کانہہ نہ تو بہ کس چیز زازا وہ کہ شاید قیامت ما آسہ تھہ کن نظر کرتھہ پڑہ ہاتھن قیامتس کھوژن  
 بیہ تمہ خاطرہ کانہہ سامانہ پادہ کزان اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا پڑپائٹھ اللہ تعالیٰ ان ہتھہ  
 لعنت کر مژکا فرن۔ تم ہتھن پنہ رحمتہ بشرہ دور کر مت بیہ ہتھن تہمدہ خاطرہ دزدہ ون ہارتیار تھووست  
 خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا لَا يَجِدُوْنَ وِلْيًا وَلَا نَصِيْرًا تھہ ہارس منز روزن ہمیشہ نہ لٹن متہ کانہہ دوختس نہ  
 کانہہ مددگارس يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يَلَيْتَنَّا اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلًا بیہ دوہنہ  
 کھتھہ پکناو تھہ من داکر تھہ دنہ ہارس منز۔ تھہ منزواتھہ آسہ تلک پیٹھہ پھیر یوان دنہ تہمدین ہتھن۔  
 ذپن تمہ ساتہ اے کاش آسہ کونہ کرے یہ فرمانبرداری خدا یہ سز یہ کونہ کرے یہ فرماں برداری پیٹھہ  
 خدا یہ سزدنیامس اندر ہر گاہ آسہ کرہ ہو تہمز فرماں برداری تھہ مستحسب گوشہ ہونہ گرفتار وَقَالُوا رَبَّنَا  
 اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَاَضَلُّونَا السَّبِيْلًا بیہ ذپن اے سانہ پروردگارہ بیشک آسہ کر فرمانبرداری پنہ  
 نین زٹھن ہنز نہ بڈین ہنز تمو ڈال آس سیزہ دتہ بشرہ رَبَّنَا اِنِّيْهِمْ ضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَتُمْ لَعْنًا  
 کبیرا اے سانہ پروردگارہ تمہن کرتہ دگن عذاب بیہ کرتھن پیٹھہ بڈلعنت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
 آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ قَبْرًا ۖ أَهْلَهُم مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا اے ہایمانو  
 تہمدہ آسو تھن لوکن ہی تمہو ایذا دتہ پڑ تو تھت لاگنہ سیت موسیٰ کلیم اللہس۔ تو پتہ کورسہ اللہ تعالیٰ  
 ان بری نہ پاک تمہ تہمز وہانز دتھہ پیٹھہ کھو تھہ اوس سہ موسیٰ کلیم اللہ خدا یس بشرہ عزتہ دول صاحبانہ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۚ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۗ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۗ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ

تمی مؤکھ کرتی اللہ تعالیٰ ان تہز براءت ثابت یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اے ایمان رکھو اللہ تعالیٰ اس سے آہو سیزہ سے ہزہ تھ کران یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ہر گاہ سے کرو طہ سبھالہ سے شیرہ اللہ تعالیٰ تہزہ کامہ۔ تہز کامہ کرہ قبولیتس لائق سے کرہ توبہ سمن مغفرت وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا یہ کس اکھاہ فرماں برداری کرہ خدا یہ سز سے تہمدس تہمبہ سز بیک تہس بنے یہ ہذ دستکاری سے کامیابی إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا پز پاشھ آسہ اولن ادکام وشرائین ہند لمانت آسانن زمین سے کوہن برو تھ کن تھنہ خاطرہ۔ تھن ادکام وشرائین پیٹھ عمل کرنے خاطرہ تمو کوہ انکار یہ تھنہ نشہ یمن ادکامن پیٹھ عمل کرنے نشہ۔ یہ کھوڑ تم اتھ خبر چھالمیک انجام کیاہ سپدہ کھوہ اُس یہ بار تھتھ کنہ نہ آسانن زمین سے کوہ پیدہ کرنے پتہ آوانسان پیدہ کرنے اس انسان سے اولمانت پیش کرنے چونکہ یہ انسان اوس علم الایس اندرز میںس منز خلیفہ سپدہ ان کس چیز برو تھ پیٹھ مقرر کرنے آمت اوس لہذا اکل تے یہ بار لمانت ہیون انج ذمہ داری (آسمان بار لمانت نتوانست کشید۔ قرعہ فال بنام من دیوانہ زند) بیک یہ انسان اوس ظالم سے جاہل (ظالم پنہ کس نفس پیٹھ یہ بار لمانت تھنہ سیت اور جاہل اوس اکہ ہار سیت) تو پتہ سپدہ آسہ پتہ زہ حال لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ  
 اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۳۳

جہ اللہ تعالیٰ عذابس گرفتار کرہ منافق مردن = منافق زنانن بیہ مشرک مردن = مشرک زنانن یم  
 گئے تم لوکھ سمو احکام خدا لوندن ہند کاندہ پردا کور نہ لانت ضائع کثرت بیہ کرہ توجہ پنہ رحمتہ سیت  
 اللہ تعالیٰ با ایمان مردن = با ایمان زنانن کن یم گئے تم لوکھ سمو امانتس ر لہجہ کر احکامن ہنر پابندی  
 کر ہتھ روز تر یم جماعت یمو گوڈہ مخالفت کرہ مگر پتولا کہ سہد کہ احساس تو پتہ سہدی نادم = پشیمان تم =  
 کری اللہ تعالیٰ ان شامل مؤمنین و مؤمناتن منز کیا زہ **وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا** اللہ تعالیٰ چہ ہمیشہ  
 سیشاہ مغفرت کر ہون سیشاہ رحم کر ہون۔

